



## THE NATIONAL ASSEMBLY OF PAKISTAN

Wednesday, the 10<sup>th</sup> June, 2026

### **TABLE OF CONTENTS**

1. RECITATION FROM THE HOLY QUR`AN.....	1
2. RECITATION OF HADITH .....	1
3. RECITATION OF NAAT.....	1
4. NATIONAL ANTHEM .....	2
5. PANEL OF CHAIRPERSONS .....	2
6. FATEH PRAYERS .....	2
7. STARRED QUESTIONS AND ANSWERS .....	3
8. UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS .....	36
9. LEAVE OF ABSENCE .....	43
10. MOTIONS FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT – (ADOPTED).....	43
11. REPORT ON THE OIL AND GAS REGULATORY AUTHORITY (AMENDMENT) BILL, 2026 – (PRESENTED) ....	44
12. MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT – (ADOPTED) .....	44
13. REPORT ON THE ARCHIVAL MATERIAL (PRESERVATION AND EXPORT CONTROL) (AMENDMENT) BILL, 2026 – (PRESENTED).....	44
14. MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT – (ADOPTED) .....	45
15. REPORT ON THE ABANDONED PROPERTIES (MANAGEMENT) (AMENDMENT) BILL, 2026 – (PRESENTED) .....	45
16. MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT – (ADOPTED) .....	45
17. REPORT ON THE FEDERAL GOVERNMENT REAL ESTATE MANAGEMENT AUTHORITY BILL, 2026 – (PRESENTED) .....	46
18. REPORT ON THE CRIMINAL LAW (AMENDMENT) BILL, 2026 – (ADOPTED) .....	46

19. MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT – (ADOPTED) .....	47
20. REPORT ON THE PAKISTAN STUDY CENTRES (AMENDMENT) BILL, 2026 – (PRESENTED) .....	47
21. MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT – (ADOPTED) .....	47
22. REPORT ON THE FEDERAL BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION (AMENDMENT) BILL, 2026 – (PRESENTED).....	48
23. MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT – (ADOPTED) .....	48
24. REPORT ON THE CENTRES OF EXCELLENCE (AMENDMENT) BILL, 2026 – (PRESENTED) .....	48
25. REPORT ON THE ELECTRICITY (AMENDMENT) BILL, 2026 – (PRESENTED) .....	49
26. REPORT ON THE REGULATION OF GENERATION, TRANSMISSION AND DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER (AMENDMENT) BILL, 2026 – (PRESENTED).....	49
27. THE INTER-BOARDS COORDINATION COMMISSION (AMENDMENT) BILL, 2025 – (PASSED) .....	49
28. THE ISLAMABAD CAPITAL TERRITORY PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGISTRATION AND REGULATION) (AMENDMENT) BILL, 2026 – (PASSED) .....	50
29. CALLING ATTENTION NOTICE REG: RAPID INCREASE IN CASES OF HIV / AIDS, PARTICULARLY AMONGST CHILDREN ACROSS THE COUNTRY – (ANSWERED) .....	52
30. POINT OF ORDER.....	59
31. CALLING ATTENTION NOTICE REG: THE RECENT FIRE INCIDENT AT A CUSTOMS WAREHOUSE IN QUETTA, BALOCHISTAN, RESULTING IN DESTRUCTION AND DAMAGE OF VEHICLES, VALUABLE GOODS AND PROPERTIES – (ANSWERED) .....	60
32. POINTS OF ORDER.....	63

## **NATIONAL ASSEMBLY OF PAKISTAN**

**Speaker**  
**Sardar Ayaz Sadiq**

**Deputy Speaker**  
**Syed Ghulam Mustafa Shah**

### **Panel of Chairpersons**

- 1. Mr. Ali Zahid**
- 2. Mr. Abdul Qadir Patel**
- 3. Ms. Nuzhat Sadiq**
- 4. Syeda Shehla Raza**
- 5. Syed Amin Ul Haq**
- 6. Ms. Naeema Kishwer Khan**

**Secretary**  
**Mr. Saeed Ahmad Maitla**

**Advisor (Legislation, Parliamentary Proceedings and Training)**  
**Mr. Muhammad Mushtaq**

**Senior Director General (Proceedings)**  
**Mr. Abdul Hadi Channa**

**Director General (Reporting)**  
**Mr. Muhammad Nawaz**

**Deputy Director (Editing)**  
**Dr. Abdul Rehman**

## NATIONAL ASSEMBLY OF PAKISTAN (ASSEMBLY DEBATES)

-----  
Wednesday, the 10<sup>th</sup> June, 2026  
-----

The National Assembly of Pakistan met in the National Assembly Hall (Parliament House) Islamabad, at 05:22 p.m. with the honourable Speaker (Sardar Ayaz Sadiq) in the Chair.

### RECITATION FROM THE HOLY QUR'AN

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾ وَ  
أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾  
(سورۃ النحل، آیات: 90 تا 91)

[ترجمہ: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔  
بیشک اللہ انصاف کا، احسان کا، اور رشتہ داروں کو (ان کے حقوق) دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، بدی اور ظلم سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں  
نصیحت کرتا ہے، تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اور جب تم نے کوئی اللہ سے معاہدہ کیا ہو تو اللہ سے کیسے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ اور قسموں کو پختہ کرنے کے  
بعد انہیں نہ توڑو جب کہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو یقیناً اللہ اسے جانتا ہے۔]

### RECITATION OF HADITH

عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ  
كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ.

[ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی  
طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کو مضبوط کرتا ہے۔ اور آپ ﷺ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا۔]

### RECITATION OF NAAT

نبی کے حسن سے ہستی کا ہر منظر چمکتا ہے  
انہیں کے نقش پا سے گنبدِ اخضر چمکتا ہے  
مہکتا ہے گلِ اخلاق کی خوشبو سے ہر آنکھ

ضیائے سیرت سرکار سے ہر گھر چمکتا ہے  
نبی نے سارے اثناؤں خلاء کے راز کھولے ہیں  
علم ان کا سب امکانات کے اوپر چمکتا ہے

### NATIONAL ANTHEM

### PANEL OF CHAIRPERSONS

جناب سپیکر: اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ Panel of Chairpersons.

In pursuance of sub-rule (1) of rule 13 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, 2007, the following Members, in order of precedence are nominated to form a Panel of Chairpersons for this session of the National Assembly of Pakistan:-

1. Mr. Ali Zahid
2. Mr. Abdul Qadir Patel
3. Ms. Nuzhat Sadiq
4. Syeda Shehla Raza
5. Syed Amin Ul Haq
6. Ms. Naeema Kishwer Khan

2. In the absence of the Speaker and the Deputy Speaker, National Assembly, the Member having precedence amongst those present at the sitting, shall take the Chair.

### FATEH PRAYERS

جناب سپیکر: میں آپ کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کو لیگ محمد انظر خان لغاری صاحب کے جوان سال صاحبزادے کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ چوہدری نثار علی خان صاحب ہمارے Member رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے، ان کی ساس صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ پشاور کے نوابی علاقے حسن خیل میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے دوران FC کے کچھ جوان شہید ہوئے، ان کے لیے۔ اسلام آباد مری ایکسپریس پہ آج ایک حادثے میں وینگن میں سوار 10 افراد شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہیلی کاپٹر کے حادثے میں افواج پاکستان کے افسروں نے شہادت نوش فرمائی اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور بھی فوت ہوا ہے تو میں میاں نعمان صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کیلئے دعا کیجیے۔  
جی حافظ میاں نعمان صاحب۔

(دعائے مغفرت کی گئی)

### STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

**Mr. Speaker:** Question Hour.

جناب سپیکر: جی Question Hour کے ساتھ ساتھ میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے سب honourable Members کو IPADs دیے تھے اس لیے آپ کے آگے کاغذ تو کوئی نہیں ہے۔ اب چونکہ بڑی دیر سے request کی تھی کہ IPADs اپنے on کریں، اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو اس میں Question Hour ہے، Calling Attention Notice ہے، جتنا legislative Business ہے وہ سب اس میں ہے، Constitution ہے، rules ہیں۔ تو یہ آپ کی آسانی کے لیے ہے، kindly آپ لوگ ان کو operational کر دیں، ہمارے نیشنل اسمبلی کے staff officers یہاں موجود ہیں وہ آپ کو guide کر دیں گے کہ کس طرح operate کرنا ہے، ایک دو دفعہ میں یہ کر لیں گے تو ہو جائے گا۔

(مداخلت)

جناب سپیکر: آپ تو باہر چلے جائیں کیونکہ آپ اپنا IPAD نہیں لے کے آئے، آج exempt کر رہا ہوں لیکن آپ کو کاغذ نہیں ملے گا آگے سے۔ اسمبلی سٹاف والے بتادیں گے کہ اس میں کیا problem ہے اور وہ ٹھیک بھی کر دیں گے۔ آج سے باقی چیزیں بھی سب آجائیں گی، یہ آپ کو ایک demonstration دے دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: یہ بڑی آسان چیز ہے، اگر سر! یہ effectively ہو جائے تو smart phones ہر کسی کے ہاتھ میں ہیں تو یہاں سے کھولا جاسکتا ہے۔ اس میں اگر کوئی glitch ہے تو ذرا IT والے دیکھیں۔

جناب سپیکر: آپ آئیے ذرا ان کو بتائیے کہ کس طرح ہوگا، اس میں ہم نے videos، games اور باقی چیزیں block کر دی ہیں، جی۔

(مداخلت)

جناب سپیکر: جی۔ نہیں وہ موبائل تو نہیں لے سکتے مگر ہاں WhatsApp بھی ہے باقی چیزیں ہیں ان شاء اللہ کرتے ہیں جی۔ جو بھی آپ کو difficulty ہوگی تو یہاں پہ ہمارے افسران موجود ہیں، آپ اپنے smart phone پہ بھی دیکھ لیجیے۔ نہیں، نیازی صاحب کریں، یہ ابھی بتاتے ہیں آپ کو، یہ officers بتا رہے ہیں۔ iPhone کام نہیں کر رہا کیونکہ اس پہ jammer لگا ہے ان کے نور عالم صاحب کے فون پہ۔ جی سید رفیع اللہ صاحب۔

**Syed Rafiullah:** Thank you, Mr. Speaker! Question No. 23.

### CORRECTIVE MEASURES TO PROTECT THE COMMON CITIZEN FROM ARTIFICIAL SHORTAGES

**23. \* Syed Rafiullah:**

**Will the Minister for Energy (Petroleum Division) be pleased to state:**

a) whether it is a fact that, on the eve of anticipated increases in petroleum prices during the months of March and April 2026, several filling stations deliberately curtailed the sale of petroleum products on fabricated pretexts such as alleged bank system link failures in order to create artificial shortages;

b) if so, whether the relevant regulatory authorities have taken immediate notice of this malpractice;

c) what concrete enforcement actions were taken against those involved;

d) whether the Government has received any complaints in this regard from the public or other stakeholders, and if so, the details thereof;

e) whether any penalties, fines were imposed or disciplinary measures were taken against on the filling stations found involved in such malpractice; and

f) what corrective and preventive measures the Government is taking to protect the common citizen from artificial shortages, hoarding, and exploitation in the future?

**Minister for Energy (Petroleum Division) (Mr. Ali Pervaiz):** (a) On the eve of weekly petroleum price revisions, particularly in first week of March, 2026, panic buying and an unusually large influx of consumers was observed with at some filling stations. However, such reported instances were immediately communicated to concerned Oil Marketing Companies (OMCs) for quick redressal through OGRA's coordination group established with all OMCs, and necessary follow-up action was undertaken to ensure timely Resolution of public grievances. Further, complaints regarding alleged bank system/link failures were resolved through concerned OMCs.

(b) Yes. OGRA immediately issued strict directions to all Oil Marketing Companies (OMCs) to ensure uninterrupted supply of petroleum products at notified rates and to strengthen field monitoring at their respective retail outlets. Furthermore, in OGRA we receive public complaints regarding any short selling, hoarding, dry-outs, and overcharging of petroleum products for timely redressal through the concerned OMCs.

(c) OGRA, in coordination with the Federal Investigation Agency (FIA) and Intelligence Bureau (IB), initiated a comprehensive inspection regime covering 25 locations nationwide. Fortnightly Inspections are being conducted at 135 OMC depots, refinery installations, and third-party storages, to verify physical stocks of Motor Spirit (MS), High-Speed Diesel (HSD), and crude oil against reported inventories. The routine enforcement and subsequent redressals are in addition to it.

(d) Yes, some complaints were received from public through a dedicated complaint cell established by OGRA. The complaints were mainly received telephonically regarding restricted supplies. All such complaints were promptly communicated to the concerned OMCs for immediate redressal through OGRA's WhatsApp coordination group established with all OMCs, and necessary follow-up action was undertaken to ensure timely Resolution of public grievances.

(e) OGRA through its six regional offices conducted field enforcement activities at the OMCs' filling stations in coordination with District authorities and OMCs' representatives to address public complaints regarding overcharging and sales stoppage. On-spot actions including site sealing, sales restoration and penalty imposition were undertaken by the District Authorities.

(f) To protect consumers from artificial shortages, hoarding, and exploitation, OGRA has issued strict directions to all Oil Marketing Companies (OMCs) to ensure uninterrupted supply of petroleum products at notified rates and to strengthen field monitoring at retail outlets. Simultaneously, Deputy Commissioners and Provincial Chief Secretaries were engaged to undertake regular inspections and maintain strict vigilance against hoarding, profiteering, illegal storage, and related malpractices.

**Mr. Speaker:** Answer be taken as read, supplementary.

سید رفیع اللہ: جناب سپیکر! Petroleum Ministry میرے اس question کے answer میں اس چیز کو مان رہی ہے کہ یہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور منسٹری نے مختلف جگہوں پہ کارروائیاں بھی کی ہیں۔ تو کیا مجھے Ministry یہ بتا سکتی ہے کہ کتنے پمپوں کو انہوں نے seal کیا ہے اور کتنے لوگوں سے recovery کی ہے اور اس چیز کو خود Ministry own کر رہی ہے کہ petrol pumps والوں نے ذخیرہ اندوزی کی اور پھر مہنگا بیچا گیا، ان سے recovery کتنی کی اور کتنے petrol pumps بند کیے گئے ہیں؟

جناب سپیکر: جی میاں خان صاحب پارلیمنٹری سیکرٹری۔

پارلیمانی سیکرٹری برائے توانائی (پٹرولیم ڈویژن) (جناب میاں خان): جی سر شکر یہ، اس میں جو honourable Member صاحب نے بات کی ہے تو مارچ کے پہلے ہفتے میں ہم نے 12 پیٹرول pumps seal کیے ہیں۔ ان میں زیادہ تر پیٹرول پمپس پنجاب کے ہیں، تو اس میں سیالکوٹ اور نارووال کے پیٹرول پمپس کو seal کر دیا ہے۔ باقی اوگرانے ہمارے ساتھ ایک گروپ بنایا ہوا ہے سر! اس پہ ہم لوگوں نے ایک code دیا ہوا ہے 80077733 جو کہ ایک toll free نمبر ہے۔

جناب سپیکر: جمال شاہ صاحب آپ ان کے بالکل آگے کھڑے ہیں، جو جواب دے رہے ہیں۔

جناب میاں خان: اس پہ سر! سب customers کو پتہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو کسی کو تو اسی نمبر پہ کال کریں اور شکایت پیش کریں تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جہاں تک پیٹرول پمپس بند کرنے کی بات ہے تو 12 پیٹرول پمپس بند کر دیے گئے ہیں۔ سب پنجاب کے ہیں اور نارووال، سیالکوٹ میں کارروائی کر کے وہ 12 پیٹرول پمپس ہم نے بند کر دیے ہیں۔

جناب سپیکر: جی supplementary عالیہ کامران صاحبہ۔

محترمہ عالیہ کامران: جی شکر یہ محترم! میرا سوال یہ ہے کہ جو ایران امریکہ جنگ کی وجہ سے پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھی تھیں dollars کے حساب سے تو اس کا actual impact کتنا ہے اور آیا اس کا کتنے percent عوام کو transfer کیا گیا ہے؟

جناب سپیکر: جی میاں خان صاحب۔

جناب میاں خان: اس میں سر! ہم نے تمام صوبائی Chief Secretaries کو letters لکھے ہوئے ہیں اور ہم نے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے IB اور FIA کی، وہ سب مل کے اس پر action اور کام بھی کر رہے ہیں۔ باقی جو 12 پیٹرول پمپس بند کیے گئے ہیں وہ customers کی شکایت تھی جو free ایک ہم لوگوں نے code دیا ہوا تھا اس کے مطابق کام کر رہے ہیں اور مزید جو کسی کو شکایت ہو تو ہم نے ایک ٹیم بنائے ہوئی ہے وہ جا کے مسئلہ حل کر دیتے ہیں، thank you۔

جناب سپیکر: جی next question شرمیلا فاروقی صاحبہ، not present، محمد معین امیر پیرزادہ صاحب، not present۔

شمینہ خالد گھر کی صاحبہ۔

محترمہ شمینہ خالد گھر کی: شکر یہ، سپیکر صاحب۔

جناب سپیکر: ایک second please طارق فضل چوہدری صاحب کدھر ہیں انہوں نے جواب دینا ہے اس سوال کا۔ Law

Minister صاحب، طارق فضل چوہدری صاحب نے یہ جواب دینا ہے Foreign Affairs کا وہ کہاں تشریف رکھتے ہیں۔

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: He is on his toes in the Senate، وہ وہاں ایک Calling Attention Notice کا

جواب دے رہے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اسے اگر pend کر دیں تو وہ آجائیں گے۔ جی، میں نے سمجھوایا ہے بندہ۔

جناب سپیکر: اس کو ابھی روک لیتے ہیں جیسے ہی وہ تشریف لاتے ہیں سینٹ سے تو پھر اسے take up کریں گے۔ جی پیرزادہ صاحب کا پھر

سے، محمد معین پیرزادہ صاحب، not present۔ شہلا رضا صاحبہ۔

**Syeda Shehla Raza: Sir! Question No. 133.**

**SHARE OF IMPORTED PETROLEUM IN THE ENERGY MIX**

**133. \* Syeda Shehla Raza:**

**Will the Minister for Energy (Petroleum Division) be pleased to state:**

**a) whether the Ministry has reviewed Pakistan's Petroleum Import Bill during the last Fiscal Year; and**

**b) the share of imported petroleum in the national energy mix and its impact on foreign exchange reserves?**

**Minister for Energy (Petroleum Division) (Mr. Ali Pervaiz): (a) Yes.**

Pakistan's Petroleum Import (Crude and Petroleum products) Bill during the last fiscal year 2024-25 remained USD 11.194 billion.

**(b)** The share of imported petroleum (Crude and Petroleum products) in National Energy Mix corresponds to 39%. The total import bill of Pakistan for the Fiscal year 2024-25 was USD 70.09 billion and the Petroleum imports accounted for 15.9% i.e. USD 11.194 billion. Since, the import of Petroleum constitute a major share of import bill, it adversely impacts the foreign exchange reserves, however, as it is desperately needed to run the economy, the petroleum imports have to be secured.

**Mr. Speaker:** Answer be taken as read, supplementary؟ شہلا رضا صاحبہ آپ کا یہ کام کر رہا ہے؟

محترمہ شہلا رضا: سر میں نے IPAD borrow کیا ہے کیونکہ میں۔۔۔

**Mr. Speaker:** Is your IPAD working?

محترمہ شہلا رضا: جی یہ تو کر رہا ہے لیکن میں لے آؤں گی کل تو وہ بھی operational کر دوں گی ٹھیک ہے جی۔

جناب سپیکر: پوچھیے سوال۔

محترمہ شہلا رضا: سر! اس میں انہوں نے چونکہ میں نے ابھی اٹھایا ہے تو میں صرف اس میں یہ پوچھ سکتی ہوں کہ یہ جو prices reviewed ہوئی ہیں اور ہمارا جو Petroleum Import Bill ہے during the fiscal year تو اس سے کیا difference ہے جو وہ first quarter میں آیا اور ہم کیا مزید بہتری اس کے لیے کر سکتے ہیں؟

جناب سپیکر: جی میاں خان صاحب۔

جناب میاں خان: اس میں Sir! Member صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہمارا گزشتہ 2025-26 کے دوران پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ نے جو درآمد کیا ہے خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات تو وہ ایک میں تقریباً 11.194 ملین ڈالر اور ایک میں تقریباً 3 ہزار ارب روپے کا بل بن گیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پاکستانی کرنسی میں ایک کروڑ روپے اور ڈالر میں 5.461 ملین وہ بن رہا ہے اور پیٹرول کی مد میں 5.733 ملین ڈالر بن رہا ہے۔ اور اس میں جو باہر سے ہم import کر کے لارہے ہیں وہ تقریباً 11.194 امریکی ڈالر آرہا ہے، سر۔

جناب سپیکر: شکریہ، محمد اقبال خان صاحب on supplementary۔

جناب محمد اقبال خان: شکریہ، جناب سپیکر! میرا بڑا simple question ہے کہ آبنائے ہر مز سے، بیس بیس tankers آ رہے ہیں اور حکومت کہہ رہی ہے کہ 28 دن کا stock بھی موجود ہے، تو petrol مہنگا کرنے کا کیا جواز ہے کہ اتنا بوجھ عوام پہ ڈالا گیا ہے؟

جناب سپیکر: جی میاں خان صاحب۔

جناب میاں خان: سر! عوام پہ ڈاکہ نہیں ڈالا گیا ہے۔ ہماری کچھ مجبوریاں ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں بھی petrol مہنگا ہوا ہے اور الحمد للہ پاکستان میں petrol pumps پر پرش نہیں ہے۔ حکومت نے ایسے اقدامات کیے ہیں کہ پہلے motorway پہ گاڑیوں کی speed limit کم کر دی تھی اور یہ بھی عوام کی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں پوری دنیا میں بڑھی ہیں۔ پاکستان نے ہی صرف قیمتیں نہیں بڑھائیں۔ petrol کے بارے میں OGRA کی committee بنی ہوئی ہے اور پندرہ دن کے بعد یہ rates میں رد و بدل کر رہے ہیں اور عوام کے لیے Petrol مزید انشاء اللہ سستا کریں گے۔ Thank you۔

جناب سپیکر: Next question، شرمیلا فاروقی صاحبہ، not present۔ اگلا سوال سید رفیع اللہ صاحب۔

سید رفیع اللہ: شکریہ، جناب سپیکر! سوال نمبر 135۔

## REASONS FOR CONTINUED OUTAGES AND LOADSHEDDING

135. \* Syed Rafiullah:

Will the Minister for Energy (Power Division) be pleased to state:

- a) the salient features of the original agreement executed with K-Electric including subsequent amendments, particularly obligations regarding generation capacity, investment, and service delivery;

- b) the existing installed capacity of K-Electric and the extent of its indigenous generation vis-a-vis reliance on external supply;
- c) whether K-Electric has fulfilled its contractual obligations; if not, the reasons for deviations thereof;
- d) whether expansion of generation, transmission, and distribution infrastructure has been undertaken or is planned; if so, details and timelines thereof;
- e) the reasons for continued outages and load-shedding despite stated capacity;
- f) the measures taken by the Government to ensure uninterrupted and equitable electricity supply; and
- g) the regulatory, financial or enforcement actions taken to ensure compliance, accountability and consumer protection, alongwith any matter ancillary or incidental thereof?

**Minister for Energy (Power Division) (Sardar Awais Ahmad Khan Leghari):**

(a) The Implementation Agreement (IA) was signed b/w KE and Government of Pakistan (Go P) upon privatization of KE on November 14, 2005. The IA was subsequently amended through Amendment Agreement (AA) in April 2009 (collectively referred to as *“the Agreements”*). Broadly, the Agreements established post privatization framework governing KE’s operations, financing arrangements, and mutual obligations b/w GoP and KE. KE obligations under Agreements were as follows:

- i. **Generation Capacity Enhancement:** To add 1,000 MW.
- ii. **Uninterrupted supply to Strategic Customers**
- iii. Equity Injection of USD 361 million

(b) The existing installed capacity (*as per Generation license*) of KE’s own power plants is around 2,400 MW. KE drawing 2,000 MW supply from National Grid.

(c) K-Electric is a vertically integrated utility regulated by NEPRA. The nature of the questions framed can be better addressed by the regulator, as NEPRA actively reviews such matters and is therefore in a more appropriate position to respond.

As far as the Power Division and the National Grid Company (NGC) are concerned, the interconnection capacity with K-Electric has already been enhanced from 1,000 MW to 2,000 MW in order to facilitate the supply of relatively cheaper electricity from the National Grid and to ensure continuity of electricity supply to consumers. Despite the outstanding payment amounting to PKR 372 billion, uninterrupted electricity supply to K-Electric continues to be maintained. Furthermore, the interconnection capacity is planned to be increased to over 3,000 MW in the future.

It is also pertinent to mention that K-Electric's own generation portfolio comprises relatively expensive sources of generation, which contributes to a higher generation tariff as compared to the National Grid pool generation cost. The Power Division provides Tariff Differential Subsidy (TDS) to bridge the gap.

(d) Since privatization and up to FY 2025, KE claims that it has invested - **USD 4.7 billion** across the value chain. Some key operational improvements are as follows:

- i. Addition of 1,957 MW in generation capacity, resulting in fleet efficiency improvement from 30% in 2005 to 47% in 2025;
- ii. Addition of 26 grid stations, enhancing power transformation capacity by 3,616 MVAs (104%);
- iii. Addition of over 1100 feeders, resulting in distribution capacity enhancement by 5,212 MVAs (134%);
- iv. Reduction in T&D and AT&C losses by 19.5% points and 13.9% points respectively

### **Future Plans**

Furthermore, during the period FY 2024 to FY 2030, KE has prepared an investment plan of USD 2 billion, out of which around USD 300 million have been invested in FY 2024 and FY 2025. As a result of planned investments, following operational improvements have been planned:

- i. Addition of **13 grid stations**
- ii. Addition of **400+ feeders**
- iii. Addition of 755 MVAs in power transformation capacity and 2,500+ MV As in distribution capacity

(e) KE's network has total 2,136 feeders, out of which 1,508 feeders (~ 71 %) are load-shed free as per summary:

<b>Feeder Loss Category</b>	<b>No. of Feeders</b>	<b>% of Feeders</b>
Low Loss (Load-shed Exempt)	1,033	<b>71%</b>
Industrial (Load-shed Exempt)	475	
Shed-able Feeders	628	<b>29%</b>
<b>Total Feeders</b>	<b>2,136</b>	<b>100%</b>

Load-shed on 628 feeders (~ 29% of KE's total feeders) is carried out on the basis of feeder- level Aggregate Technical & Commercial (AT&C) loss (i.e. theft and non-payment. Further, it is important to clarify that power interruptions arising from technical faults, system maintenance, or customer-side issues are often misconstrued as load-shed.

(f) As detailed in response to (d) above, KE has made targeted investment in its infrastructure for uninterrupted and reliable power supply. In addition, KE remains committed to reducing AT&C losses of feeders in its service area, which includes the following:

- i. Installation of Aerial Bundled Cables (ABC). To-date around 13,000 PMTs have been converted to ABC to prevent illegal abstraction of power;

- ii. Targeted kunda removal drives. During FY 2025-26, 261,832 kgs of kundas removed;
- iii. Recovery camps and schemes to improve consumer payment behavior. During FY 2025-26, 336 mega recovery camps organized across service area.

In addition, with support from Govt. of Pakistan, the interconnection capacity to draw power from National Grid has also increased to 2,000 MW.

**(g)** KE operates under NEPRA regime within a regulatory framework defined and enforced by NEPRA which may better share any actions or measures taken against defined Performance parameters.

**Mr. Speaker:** Answer be taken as read, supplementary question please.

سید رفیع اللہ: سر! جواب میں Ministry again اس بات کو own کر رہی ہے اور ہم بھی privatization کے خلاف نہیں ہیں، لیکن وہ privatization ہونی چاہیے جو عوام کے مفاد میں ہو۔ اگر آپ privatization سرمایہ داروں کے مفاد میں کرنا چاہتے ہیں تو اس سے نقصان پاکستانی قوم کا ہو گا اور اس Parliament کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستانی عوام کے مفاد کا تحفظ کر لے۔ جب K-Electric کو privatize کیا گیا تھا تو اس معاہدے میں انہوں نے اس بات کو مانا تھا کہ ہمارے پاس 2400 میگا واٹ پیداوار کی capacity ہے، لیکن آج بھی National Grid سے 2 ہزار K-Electric megawatt کو دیا جا رہا ہے۔ اور اس پر Government اتنے سالوں سے کیوں action نہیں لے رہی؟ ایسا کیا مکا ہے کہ عوام پر ظلم ہو رہا ہے اور کوئی بھی حکومت ہو، وہ ان سرمایہ داروں کے سہولت کار ہوتے ہیں نہ کہ عوام کے۔ تو خدا را اس کا ایک تفصیلی جواب دیجیے۔ کراچی کے لوگ Parliament کی طرف دیکھ رہے ہیں، کہ ہمارے نمائندے کیا کر رہے ہیں؟

جناب سپیکر: عامر طلال صاحب۔

پارلیمانی سیکرٹری برائے توانائی (پاور ڈویژن) (جناب عامر طلال خان): میرے آئریبل بھائی نے جو بات کی ہے، اس سے تھوڑا سا میرا اختلاف یہ ہے کہ جب یہ agreement کیا گیا تھا اور privatization کی گئی تھی تو اس کے مطابق انہوں نے 1000 megawatt کے قریب capacity generation میں addition کرنی تھی، لیکن اس کے against تقریباً 1957 میگا واٹ انہوں نے اس میں add up کیا۔ اپریل 2009 سے till today 4.7 billion ڈالر کی investment کی گئی ہے۔ اب یہ جو بات کی گئی ہے اور واقعی ایسا ہی ہے کہ 2400 میگا واٹ ان کی اپنی generation capacity ہے اور 2 ہزار میگا واٹ ان کو National Grid سے دیا جاتا ہے۔ جب یہ agreement ہوا تھا تو اس میں 1000 megawatt انہوں نے بڑھانا تھا، جس کے against

انہوں نے تقریباً 2000 megawatt بڑھا دیا ہے۔ تو آگے ان شاء اللہ 2024 to 2030 تک 2 بلین ڈالر کی مزید سرمایہ کاری کریں  
-Thank you گے

جناب سپیکر: اسد نیازی صاحب on supplementary

جناب اسد عالم نیازی: سر! جب K-Electric کو privatize کیا گیا تو یہ دنیا میں واحد company نہیں ہے جو بجلی پیدا اور  
distribute بھی خود کرتی ہے اور اس کے agreement میں یہ تھا کہ یہ distribution کسی اور کو دی جائے گی، because  
دونوں control ایک company کے پاس نہیں رہ سکتے۔ سب سے بڑا mafia K-Electric کا ہے اور آج انہوں نے ایک مہینہ  
پہلے، یہ بڑی important بات ہے۔

جناب سپیکر: مگر تقریر نہ کی جائے، please سوال کیجیے۔

جناب اسد عالم نیازی: سر! اس میں K-Electric gas MMCFD 1200 کو دی گئی ہے، جس میں اس کا rate 1450  
rupees per MMBTU ہے۔ یہ پہلے industries کے پاس 4 ہزار روپے تھی، اب بھی ان کو 1400 روپے میں دے دی گئی ہے۔ کیا اس  
کا relief کراچی کے عوام کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ جو کہ ملنا چاہیے۔

جناب سپیکر: عامر طلال صاحب۔

جناب عامر طلال خان: جہاں تک tariff کی بات ہے تو اس کو NEPRa devise کرتی ہے اور NEPRa کے under ہی  
tariff بنایا جاتا ہے۔ اتنا میں ضرور بتا دوں کہ National Grid سے 2000 megawatt جو دی جاتی ہے، وہ اسی لیے دی جاتی ہے تاکہ  
customers کو کم سے کم rate پہ بجلی مہیا کی جائے اور یہ جو tariff differential subsidy ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے۔  
-Thank you

جناب سپیکر: نعیمہ کشور صاحبہ، on supplementary -

محترمہ نعیمہ کشور خان: شکریہ، جناب سپیکر! میرا question یہ ہے کہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ next week میں گرمی بہت  
زیادہ ہوگی۔ اگر ہم دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں پہلے دو گھنٹے کے لیے بجلی آتی تھی اور دو گھنٹے نہیں ہوتی تھی، لیکن اب چار چار گھنٹے نہیں ہوتی، ایک گھنٹے کے  
لیے آتی ہے اور ساری رات بجلی نہیں ہوتی۔ تو عوام کو یہ لوگ کیا relief دے رہے ہیں؟ KAPCO ہے، PESCO ہے، پتہ نہیں عوام کو کس  
کس کے حوالے کیا ہے۔ ذرا حکومت اس پہ نظر ثانی کرے۔ اس گرمی کے موسم میں سستی بجلی زیادہ فراہم کریں، کیونکہ خیبر پختونخوا میں اس وقت تقریباً  
بیس سے بائیس گھنٹے کی load-shedding ہو رہی ہے، ساری رات بجلی اور گیس نہیں ہوتی۔ kindly میری Parliamentary

Secretary صاحب سے request ہوگی کہ اس پہ کچھ کریں۔ Thank you.

جناب سپیکر: جی Parliamentary Secretary صاحب۔

جناب عامر طلال خان: جناب سپیکر! یہ basically سوال تو K-Electric کے متعلق تھا، لیکن آئرن بیل ممبر نے PESCO کے متعلق بات کی ہے تو اس کو میں ضرور check کر لیتا ہوں اور اس کو ensure کیا جاتا ہے کہ جو بات یہ کہہ رہی ہیں، اس کو address اور اس کو ٹھیک بھی کیا جائے۔ Thank you۔

جناب سپیکر: حفیظ الدین صاحب، on supplementary۔

جناب حفیظ الدین: میرا supplementary question یہ ہے کہ basically ایک agreement ہوا تھا، جس کے ذریعے سے K-Electric initially privatize ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس کے کئی owners بدل گئے اور اس کے کئی agreements ہو گئے۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک کتنے agreements ہوئے ہیں، ان کی تفصیل بتائی جاسکتی ہے کیا؟ جناب سپیکر: عامر طلال صاحب۔

جناب عامر طلال خان: جناب سپیکر! سب سے پہلے جو یہ agreement ہوا تھا وہ 14 نومبر 2005 میں ہوا تھا اور اس کے بعد یہ Generation Capacity April 2009 agreement میں ہوا، جس کے تین basic points تھے، جس میں ایک Uninterrupted supply to Strategic Enhancement to add 1,000 megawatt اور تیسرا ہے Customers Equity Injection of USD 361 million کا منسٹری کا stance یہی ہے کہ یہ تمام criteria's تھے یا جو agreement کے time plan کیے گئے تھے، یہ سارے fulfill ہوئے ہیں بلکہ اس میں اضافہ ہوا ہے۔ جناب سپیکر: ڈاکٹر طارق صاحب آپ کی غیر موجودگی میں Question 131 آیا تھا، وہ لے رہے ہیں۔ ثمنینہ خالد گھر کی صاحبہ۔ محترمہ ثمنینہ خالد گھر کی: شکریہ، سپیکر صاحب! سوال نمبر 131۔

## LEGAL AND WELFARE SUPPORT TO OVERSEAS WORKERS

131. \* Ms. Samina Khalid Ghurki:

Will the Minister for Foreign Affairs be pleased to state:

- what steps are being taken by the Government to address the dire plight of Pakistanis Prisoners, especially those on death row, seriously ill or due to heavy fine in Spain, United Kingdom and Portugal; and
- the responsiveness of Pakistani Embassies in providing legal and welfare support to thousands of overseas workers?

**Minister for Foreign Affairs (Senator Mohammad Ishaq Dar): (a)**

- i. As per the Spanish Constitution, capital punishment is abolished.
- ii. The Spanish legal system provides all accused or charged persons with free legal counsel and defense, including in their native language, if they are unable to afford legal representation. Convictions are made only after the completion of due process of law, and those convicted are provided avenues for appeal. Consequently, our Missions in Spain do not ordinarily receive requests for assistance with legal representation.
- iii. Nevertheless, our Mission is providing full legal support and counseling when approached by any individual. It must also be clarified that, after conviction, prisoners are required to serve their sentences as decreed, and there are no provisions for release contingent upon the payment of fines. There have been no reports of unlawful detention or unjustified imprisonment of Pakistanis in Spain.
- iv. In 2023, our Mission in Madrid, with the approval for the Ministry of Foreign Affairs, engaged the services of a law firm (for €19,500) to represent 13 Pakistani mariners arrested from M/V Blume for trafficking 4,400 kg of drugs.

**Portugal:**

- i. Our Mission in Lisbon regularly provides consular access to the prisoners. It bridges coordination between prisoners and their lawyers, on need basis. Our Mission has provided essential Items and halal food to prisoners, after consultation with jail authorities.
- ii. As a major step MOFA has initiated a proposal for signing of an agreement on transfer of offenders between Pakistan and Portugal, so that the convicted prisoners could be able to complete their sentences in their home country.

**United Kingdom:**

- i. The UK judicial system operates independently in determining criminal liability and sentencing. Legal presentation is provided to defendants upon request during trial proceedings by the UK government. Following conviction, sentenced individuals are required to serve their term, though the UK's Early Release Scheme which may permit release based on good conduct. It is important to note that the UK government does not entertain consular intervention seeking the early release of its citizens or foreign nationals.
  - ii. The Prisoner Transfer Agreement has facilitated the repatriation of six Pakistani Prisoners in the calendar year 2024 and three prisoners in 2025. Our high Commission in London is actively working on additional five cases for their repatriation 2026.
  - iii. With regards to the efforts by our High Commission in London it may be noted that repatriation was resumed following a hiatus of five years. The standard repatriation procedure is as follows:
  - iv. A prisoner submits a formal request for repatriation to UK prison authorities.
  - v. HM Prison and Probation Service forward the application, along with full crime and sentencing details to the FIA Link Officer in the High Commission.
  - vi. The Link Officer transmits the application to MOFA Islamabad for onward submission of the Ministry of Interior.
  - vii. Upon the MOI's confirmation of the prisoners release date and its willingness to accept the prisoner into a Pakistani facility, MOFA notifies the Mission, which in return informs the HMPPS.
  - viii. HMPPS then finalizes all documentation and arranges flight logistics, with flight details and receiving officer information from the FIA in Pakistan confirmed by the MOI.
- (b) i. As soon as a Pakistani is apprehended by the law enforcing agencies, the date of arrest and the charges leveled against them are communicated to the Missions through official communication

- channels of the host Government. The Missions tabulate the information and a comprehensive databank of the same is maintained.
- ii. At times, Pakistanis arrested in police stations are released because of the timely intervention of the Missions. Similarly, Missions facilitate release/repatriation of Pakistanis detained/stranded at various airports of the host State.
  - iii. After arrest, the case is sent to Public Prosecution Departments where the facility of translator, if required, is usually provided by the department itself. However, the Missions' officials regularly visit the departments and assist Pakistanis when and where requested.
  - iv. The Mission representatives regularly visit the jails and ensure the well-being of all prisoners. The prisoners interact with the officers of the Missions during jail visits and register their complaints regarding food, medicine, hygiene etc., which are immediately discussed with the jail authorities.
  - v. Contact details of officials, officers and Honorary Representatives of the Missions are provided to every jail. Prisoners contact the Mission on regular basis.
  - vi. The Mission helps in arranging visits of the families of the prisoners on regular basis. A prescribed proforma is issued by the Missions which are honored by the Jail authorities.
  - vii. At times, the families in Pakistan demand that the prisoners wish to sign a power of attorney or other similar document. The officials of the Missions facilitate them in this regard.
  - viii. The Missions regularly obtain data of Pakistani prisoners in jails and deportation centers and provide Emergency Travel Documents to the prisoners who have completed their awarded sentence.
  - ix. Mercy appeals/petitions received from the relatives are forwarded to the concerned State Offices through the host Foreign Office.
  - x. Missions in Gulf States have also opened legal sections to provide free of cost legal consultation.

- xi. Missions in Muslim countries periodically request the local authorities for waiving off remaining sentences of Pakistani prisoners undergoing imprisonments on various occasions e.g. Ramadan, Eid, and National Days, etc.
- xii. Cases of prisoners on death row are forwarded to local authorities for converting their death penalty into long imprisonments, where possible.
- xiii. At every high-level visit, the Ministry ensures that the issue of release of Pakistani prisoners is raised with the visiting dignitary in order to repatriate as many Pakistani prisoners possible.

**Mr. Speaker:** Answer be taken as read, supplementary question please.

محترمہ شمینہ خالد گھر کی: مجھے جواب تو تفصیل میں دیا گیا ہے، لیکن میرا پھر وہی سوال ہے کہ ہمارے باہر جو لوگ arrest ہوتے ہیں یا ان پہ cases ہوتے ہیں، وہ powerful بھی نہیں ہوتے اور ان کے اتنے sources بھی نہیں ہوتے۔ ان کی families یہاں بہت زیادہ برے حالات میں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم ان کے لیے اقدامات کرتے ہیں اور detail دی ہے، لیکن پھر بھی میرا سوال ہے کہ ان کے لیے اور بہتر اقدامات کیا ہوں گے؟ کیونکہ چند ملکوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو میں نے پوچھا تھا، لیکن general میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستانی گورنمنٹ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟

جناب سپیکر: ڈاکٹر طارق فضل صاحب۔

وزیر برائے پارلیمانی امور (جناب طارق فضل چوہدری): جناب سپیکر! بہت شکریہ۔ سر! آزیبل ممبر کا بنیادی question تین ممالک کے حوالے سے تھا کہ وہاں پہ جو قیدی ہیں، خاص طور پہ وہ قیدی جو death row پہ ہیں، ان کے حوالے سے Government کیا اقدامات کر رہی ہے؟ اس کا سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ تین ممالک، جن میں Spain, Portugal اور UK ہیں، ان میں death sentence abolish ہوئی ہے اور وہاں پہ death row کے اوپر کوئی بھی پاکستان کا قیدی اس وقت موجود نہیں ہے۔ دوسری بات، overall جو انہوں نے اپنے supplementary question میں پوچھی ہے کہ ان ممالک میں یا جہاں پہ بھی پاکستانی community آباد ہے، diaspora ہے اور خاص طور پہ ہمارے Gulf countries ہیں، جہاں پہ ہمارے millions کی تعداد میں پاکستانی کام کر رہے ہیں، انہیں اگر کوئی issues ہیں اور اگر ان کے خلاف کوئی مقدمات یا وہ جیلوں میں ہیں تو Government ان کو کیسے facilitate کر رہی ہے، تو میں ان سب کا مجموعی طور پہ یہ عرض کر دیتا ہوں کہ ان کے لیے ہماری جو Embassies ہوتی ہیں ان میں باقاعدہ section ہوتا ہے کہ counselor حضرات وہ جا کے ان تمام جیلوں میں ان قیدیوں کا data لیتے ہیں، ان سے fortnightly،

weekly ملاقات کرتے ہیں اور ان کے issues کو address کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کو فیملی سے ملاقات کرنے میں problem ہو، health issues ہوں، تو انہیں address کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اگر کوئی قیدی اپنے لیے کوئی attorney یا کوئی legal support afford نہ کر سکتا ہو تو وہ سارا بندوبست بھی Embassy کرتی ہے۔ یہ میں ان تمام ممالک جن کا میں نے نام لیا ان سب کے حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ جو لوگ وہاں پہ اس طرح کی مشکلات کا شکار ہیں ان کا پورا خیال رکھتے ہیں اور انہیں ہر طرح کی جو assistance ہے وہ through embassy فراہم کی جاتی ہے۔

کچھ ممالک کے بارے میں عرض کروں گا کہ جیسے UK ہے، ان کے ساتھ ہمارے ایسے agreements موجود ہیں جن میں قیدیوں کا تبادلہ بھی موجود ہے اور سپین یا پرتگال کے ساتھ جو سوال پوچھا گیا ہے، ان کے ساتھ تو نہیں لیکن UK کے ساتھ ہمارا یہ agreement موجود ہے اور اس کے لیے جو repatriation agreement ہے، اس میں چھ پاکستانی قیدی 2024 میں اور تین پاکستانی قیدی وہ 2025 میں repatriate کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ 2026 میں 5 cases میں ابھی مکمل ہو چکے ہیں۔ تو یہ سب! مختصر سی تفصیل تھی۔

جناب سپیکر: جی قادر ٹیلی صاحب supplementary کریں۔

جناب عبدالقادر ٹیلی: سر! وزیر موصوف نے بڑا تفصیلی جواب دیا کہ بیرون ملک جو پاکستانی مشکلات کا شکار ہیں ان کے حوالے سے۔ تھوڑا سا ہٹ کے میں اسی وزارت کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا supplementary کے طور پر اور اس کا اظہار میں دو بار پہلے بھی اس ایوان میں کر چکا ہوں۔ آج ڈیڑھ ماہ سے اوپر کا عرصہ ہو گیا ہے، ہمارے دس پاکستانی صومالی قزاقوں کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہیں اور میں اس forum پہ یہ دو مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ آپ ان کو واپس چھڑانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ تو ہمیں وزارت خارجہ سے یہ جواب آتا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ جو یرغمال ہیں ان کے پاس ایک کیمرہ ہے، وہ اپنی videos بھیج رہے ہیں، کہ کھانا پینا ان کے پاس ختم ہو گیا ہے، ان پہ قزاق تشدد کر رہے ہیں، ان کو پینے کا پانی تک میسر نہیں ہے۔ ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب تو ڈیڑھ ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے۔

آپ سے میری گزارش ہے کہ سراسر انسانی ہمدردی کے طور پر اگر وزیر موصوف صاحب کے پاس اس وقت اس کا جواب نہیں تو وزارت خارجہ سے آج جواب طلبی کی جائے۔ وہ دس پاکستانی اور ان کی families بڑی اذیت میں ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں، وزارت خارجہ والے ذرا بتادیں؟

جناب سپیکر: ڈاکٹر طارق فضل صاحب۔

جناب طارق فضل چوہدری: یہ واقعی بڑا ایک سنگین issue ہے اور اس حوالے سے یہ صرف issue پاکستان کا نہیں ہے۔ یہ جو صومالی قزاق ہیں، ان کا یہ وطن رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے کوئی وہ جہاز جو وہاں پہ trade route پہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر حملے کرنا، ان کے staff کو یرغمال بنانا، یہ اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں۔ پاکستانی شہری بھی اس سے پہلے ان کی قید میں رہے ہیں، انہیں کامیابی سے چھڑایا گیا اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ آج بھی یہ پوری کوششیں جاری ہیں، لیکن میں فاضل ممبر کی جو concern ہے، یہ براہ راست وزارت خارجہ کو پہنچاؤں

گا۔ لیکن from the Government side میں یہ assure کرتا ہوں کہ ہر ممکن کوشش جو ان پاکستانیوں کی رہائی کے لیے ہمارے پاس دستیاب ہے resources, contacts وہ برائے کار لائے جارہے ہیں، Deputy Prime Minister and Foreign Minister اسحق ڈار صاحب اس issue کو personally بھی دیکھ رہے ہیں۔

جناب سپیکر: اس specific issue کو ذرا personally دیکھ لیجئے گا۔ for further details شہر یار آفریدی صاحب on supplementary۔

جناب شہر یار آفریدی: جناب سپیکر! سب سے پہلے یہ issue, anything related to Foreign Affairs, پاکستانیوں کے حوالے سے ان تمام چیزوں کا جواب اگر Minister concerned ہوتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ routine کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ اس time immigrants جو ہیں چاہے وہ illegal ہیں یا جو بھی ہیں، ان کے ساتھ جو رویہ ہے across Europe اور پھر جس طریقے سے ہمیں ان کی لاشیں ملتی ہیں پاکستان کی ماؤں کے سپوت سمندر کے یا مختلف طریقوں سے، جب ان کو pass کرتے ہیں اور پھر وہاں کے ممالک کا ان کے ساتھ جو رویہ ہے، پاکستان کے جتنے بھی key stake holders ہیں، ان ممالک میں ان کو نہ تو ان کو وہ reach out کرتے ہیں نہ ان کے لیے remedy کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ Ministry نے اس حوالے سے کون سے ایسے initiatives لیے ہیں؟ نمبر دو UAE سے جتنے بھی پاکستانی واپس پاکستان بھیج دیے گئے ہیں، ان کے movable، immovable assets وہاں پہ رہ گئے ہیں، کیا اس حوالے سے انہوں نے کوئی initiative لیا ہے تاکہ ان کے جو بھی assets وہاں ہیں ان کو recover کیا جائے۔ Thank you۔

جناب سپیکر: ڈاکٹر طارق فضل چوہدری صاحب۔

جناب طارق فضل چوہدری: سوال کا پہلا حصہ جو مجھے سمجھ آیا ہے کہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں illegal طریقے سے اور وہاں بھی ان کو پھر ظاہر ہے documentation اور دیگر issues کا سامنا ہوتا ہے۔ جناب سپیکر! آپ کو یاد ہو گا کہ ابھی جو ہمارا previous Session تھا، اُس میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ یہاں پہ پاکستان کے مختلف airports پہ جن لوگوں کے پاس valid visa بھی ہوتا ہے، ان میں reports ہیں کہ کچھ لوگوں کو روک لیا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟

جناب سپیکر! اس سوال کے جواب میں وہی وجوہات جو اُس وقت بیان کی گئی تھیں۔ وجوہات یہی ہیں کہ ہمارے وہ لوگ جو بغیر documentation کے جاتے ہیں اور وہ لوگ جو یہاں سے چند ممالک جیسے Libya ہے Gulf countries ہیں، Saudi Arabia ہے، یہاں سے پھر آگے سمندر کے ذریعے بغیر documentation کے وہ یورپی ممالک میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی

ایسے بڑے المناک حادثات بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ جس میں سینکڑوں کی تعداد میں پاکستانی نوجوان جو یہاں سے جا رہے تھے، visa کسی اور ملک کا لے کے، تو وہ سمندر کے راستے cross کرتے ہوئے کسی اور ملک جانے کی کوشش میں اپنی قیمتی جانیں گنوا بیٹھے۔

اس کے بعد Prime Minister شہباز شریف صاحب کی direction پہ FIA نے بڑی مستعدی سے اس پہ کام کیا۔ ایک سو سے زائد FIA کے افسران اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے، terminate کیے گئے اور اس کے بعد یہ ایک filter لگایا گیا ہے کہ جب بھی ان ممالک میں بالخصوص جو لوگ جاتے ہیں انہیں دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے کہ ان کی عمر کیا ہے، ذرائع آمدن کیا ہیں، دیگر ان کا اپنا ایک criteria ہے اور اس حوالے سے جو department سمجھتا ہے کہ یہ لوگ اسی transit route کے ذریعے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں روکا جاتا ہے تاکہ پاکستان کی بیرونی دنیا میں سسکی بھی نہ ہو اور ان لوگوں کی جانوں کو بھی بچایا جاسکے۔

اور اس کے بعد honourable Member نے دوسرے سوال کا part پوچھا، امریکہ اور ایران کی جو جنگ ہوئی ہے، اس میں وہاں پہ مختلف ممالک کے جو لوگ resident تھے UAE میں، ان کے خلاف Government of disciplinary actions independent ملک ہے اور ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ جن لوگوں نے وہاں پہ social media پہ جو وہاں پہ missiles گرے UAE میں، ان کی عمارتوں کو نقصان پہنچا، airport کو نقصان پہنچا، ان خبروں کو پھیلا یا، انہیں social media پہ چڑھایا، ان کے خلاف انہوں نے disciplinary actions لیے ہیں۔ کچھ ان میں پاکستانی ہیں جن کی ساری report ہمارے پاس ہے۔ وہ تقریباً ساڑھے تین ہزار کے قریب وہ data ہے جو پاکستانی repatriate کیے گئے ہیں۔ لیکن یہ صرف پاکستانی نہیں، دیگر ممالک کے باشندے اور رہائشی بھی ان میں شامل ہیں۔ ان کی properties کے حوالے سے وہ رابطہ کر رہے ہیں Foreign Office سے۔ UAE نے کوئی ایسی policy نہیں بنائی کہ اگر کسی کو repatriate کرتے ہیں تو ان کی وہاں پہ کاروبار یا ان کی property کو بھی confiscate کیا جائے۔ ایسی کوئی ان کی policy نہیں ہے۔ ان کی family کے لوگ، خاندان کے لوگ یا دیگر ان کے جو کوئی عزیز و اقارب ہیں وہ اگر وہاں موجود ہیں تو ان کی پرپرٹی اور assets وہ ان کے حوالے ہیں اور اگر ان کا کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں Foreign Office سے رابطہ کریں۔ ان شاء اللہ Foreign Office انکو entertain کر رہا ہے۔

**Mr. Speaker:** Noor Alam Sahib on supplementary.

جناب نور عالم خان: شکریہ جناب سپیکر! میں honourable منسٹر، ڈاکٹر فضل چوہدری صاحب سے سوال کروں گا۔ Foreign Affairs کے لحاظ سے کہ یہاں پہ کچھ Ambassadors بغیر Foreign Office کی اجازت کے ہر منسٹری میں چلے جاتے ہیں اور ان سے briefing لیتے ہیں۔

میں honourable Minister سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کون سے قانون کے تحت وہ Ambassadors منسٹریوں میں، ہمارے internal affairs میں interfere کرتے ہیں اور آپ ان کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ وہ کون سے قانون ہیں، کیونکہ ان کو Foreign Office سے اجازت لینا چاہیے۔

دوسری بات کہ میرے knowledge میں یہ آیا ہے کہ جب ویزوں کے لیے apply کرتے ہیں تو وہ پاکستان کے sensitive institutions کے مطابق سوالات کرتے ہیں۔ کیا آپ کو اس کے حوالے کچھ پتہ ہے؟ اور اگر پتہ نہیں ہے تو پھر میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا۔ یہاں پہ Assembly کے Floor پہ اگر بتاؤں گا تو ان ممالک کے ساتھ آپ کی دوستی خراب ہو جائے گی۔

**Mr. Speaker:** Minister for Parliamentary Affairs.

جناب طارق فضل چوہدری: سر honourable Member نے جو دو سوالات کیے ہیں یہ سوالات کم اور سنگین الزامات زیادہ ہیں۔ تو لہذا میں اسے اسی context میں لوں گا۔ لیکن چونکہ انہوں نے مہربانی کر کے یہ offer فرمائی ہے کہ in-person ملاقات میں وہ اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے۔

تو میرا خیال ہے ہم اس ملاقات کو زیادہ ترجیح دیں گے اور اس کا outcome جو ہو گا وہ پھر in-person میں آپ کو بھی پیش کر دوں

گا۔

**Mr. Speaker:** Thank you. Ali Muhammad Khan on supplementary.

جناب علی محمد: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ (عربی)۔ میرے حلقے کا ایک issue ہے honourable Speaker Sahib اور مسئلہ رکھنے سے پہلے ہی میں شکر یہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں۔

Honourable Minister for Overseas Pakistanis عون چوہدری صاحب نے اس میں personal interest لیا اور میری ایک phone call پہ وہ میرے حلقے کے لوگوں سے کل ملے ہیں اور وہ بڑے مطمئن سے ہو کے گئے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ میرے حلقے کا ایک نوجوان کوئی 28 سال کا و سیم Italy میں کام کاج کے لیے گیا تھا۔ جس طرح ہمارے overseas Pakistanis محنت مزدوری اور کام کاج کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں اس کے ساتھ ظلم عظیم ہوا ہے، کچھ اور بھی لوگ اس کے ساتھ مارے گئے۔ لیکن یہ ایک پاکستانی اس میں شہید ہوا ہے honourable اسپیکر صاحب! اس کو گاڑی میں بند کر کے، آگ لگا کے ان کو زندہ جلادیا گیا اور مردان میں جو اس کے گھر والے ہیں اور میرا حلقہ ہے۔ وہاں بہت افسردگی کا ماحول ہے اور آج جو میں یہ بات کر رہا تھا honourable اسپیکر صاحب میں سوچ رہا تھا میں یہ بات کروں کہ نہ کروں کیونکہ ابھی تک ان کی امی جان کو بتایا نہیں گیا لیکن میری مجبوری ہے میں نے یہ چیز on record لانی ہے۔ ان کی امی کو ابھی تک نہیں پتہ کہ بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہے، بھائی ان کے cousins سب ان کو بتا رہے ہیں بیمار ہے، یہ ہے، وہ ہے۔

اب کل جوان کے لواحقین honourable منسٹر صاحب کے ساتھ ملے ہیں۔ ان کی دو تین demands ہیں اور اس پہ منسٹر صاحب کام بھی کر رہے ہیں۔ لیکن میں اس issue کو on record لانا چاہتا ہوں کہ اس میں Federal Government ہماری Overseas Ministry اور عون چوہدری صاحب ان کی support کریں، Foreign Minister ڈار صاحب اور ان کی Ministry مدد کریں کہ تین نکات ہیں۔

نمبر ون اس بچے کی body decompose ہو گئی ہے لیکن we need him back in Pakistan تاکہ ان کی تجہیز و تکفین ہو اور گھر والوں کو سکون ہو، مردان میں ان کا جنازہ ہو۔ نمبر ایک کہ ان کی body کی repatriation ہو نمبر دو وہاں جو بھی کوئی legal complications ہیں۔ ان میں ہمارا Foreign Office involve ہو کیونکہ وہ تو غریب لوگ ہیں، وہ تو وہاں کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ان کو legal help دی جائے وہاں۔

اور تیسرا میں نے personally بھی عون چوہدری صاحب سے request کی ہے کہ غریب لوگ ہیں، ان کو اگر Federal Government کی طرف سے کوئی financial support مل جائے جس پہ انہوں نے وعدہ کیا کہ OPF سے وہ کچھ کریں گے۔ تو ان تین نکات پہ اگر Federal Government ہمارے منسٹر صاحب کی بھی support کرے، میں منسٹر صاحب سے بھی request کروں گا پہلے ہی آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ ان لوگوں سے بہت اچھے طریقے سے ملے ہیں۔ لیکن اس کو please expedite کیجئے اور یہ تینوں نکات پر please کام کیجئے تاکہ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا۔ لیکن اب اس فیملی کے درد پہ مرہم رکھا جائے۔ بہت شکریہ۔

جناب سپیکر: ڈاکٹر طارق فضل صاحب ایک تو آپ بھی اس کو look after کر لیجئے گا۔ عون چوہدری صاحب آپ جو اب دینا چاہیں گے؟ وزیر مملکت برائے سمندر پار پاکستانی و ترقی انسانی وسائل (جناب محمد عون حقین): شکریہ جناب سپیکر۔ بہت مہربانی میرے بھائی نے appreciate کیا۔ جناب سپیکر! بالکل کل ان کے لواحقین سے میری ملاقات ہوئی ہے اور میں نے اپنے department جو ہمارا OPF ہے ان کے MD Sahib کو سارا کیس بھجوا یا ہے اور ان سے ان کو ملوایا اور یہ بڑا دل دہلانے والا واقعہ ہے۔ ہمارے ایک پاکستانی نوجوان کے ساتھ وہاں پہ بڑا ظالمانہ سلوک ہوا ہے۔

ہمارے جو وہاں کے Ambassador ہیں میری آج بھی ان سے بات ہوئی ہے اور جوان کی تینوں demands ہیں ان شاء اللہ وہ fulfill کریں گے اور OPF یہاں ان کی تدفین کا، ان کی dead body لانے کا سارا انتظام ہم کریں گے ان شاء اللہ۔ اور میں نے ان کو convey بھی کر دیا ہے۔ And we are fully on board.

جناب سپیکر: جی شکریہ۔ حمید حسین صاحب Supplementary میں تھوڑے سے extra supplementary لے رہا ہوں۔ ایک تو میرے پاس questions کم ہیں اور دوسرا important issue ہے۔

جناب حمید حسین: سر! میرے ایک دو questions ہیں، ایک تو repetition ہے یہ UAE کا لیکن پھر بھی میں بتاتا ہوں کہ گورنمنٹ بار بار deny کر رہی ہے کہ ایسے کوئی واقعات نہیں ہیں۔ میرے پاس اپنے علاقے کے تقریباً 700 بندوں کی لسٹ ہے جن کے تقریباً 3.8 billion کے assets ادھر رہ گئے ہیں ایک تو وہ ہے۔ میں یہ Ministry of Foreign Affairs سے question کر رہا ہوں کہ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟

دوسرا یہ کہ میں بار بار لکھ رہا ہوں آج بھی میں نے سعودیہ کے ambassador کے بارے میں لکھا ہے اپنے MOFA کو کہ ہمارے جو لڑکے اٹھائے گئے ہیں مہینوں سے ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، نہ ان کی جیل کا کوئی پتہ چل رہا ہے، نہ ان لڑکوں کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ کدھر قید ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟

تو سر! میں آج بھی لکھ چکا ہوں ان کے بارے میں بھی میں کہتا ہوں کہ سر کوئی ایکشن لیں۔

جناب سپیکر: جی ڈاکٹر طارق فضل صاحب۔

جناب طارق فضل چوہدری: سر! میں تفصیلی جواب دے چکا ہوں کہ UAE میں صرف پاکستانی شہریوں کے خلاف کوئی selective operation نہیں ہو رہا۔ وہ ان کی اپنی گورنمنٹ کے کچھ disciplinary actions ہیں جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں کہ فلاں فلاں عمل میں اگر کوئی بھی شہری اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو اگر involve ہو گا۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ اقدامات اٹھائے ہیں۔

لیکن اگر کوئی Member specific information کے پاس ہے میں ان سے collect کروں گا ان شاء اللہ۔

Foreign Office جائیں گے اور ان شاء اللہ اس کو pursue کریں گے۔

جناب سپیکر: انہوں نے جو پہلے letters لکھے ہیں ان کی copies بھی دیجئے گا۔ عون چوہدری صاحب اس پر آپ بھی کچھ کہنا چاہیں

گے؟

جناب محمد عون ثقلین: شکر یہ جناب سپیکر۔ جناب سپیکر! یہ جو UAE کا issue ہے۔ اس میں زیادہ تر تو social medial پہ کوئی

زیادہ speculations ہو رہی ہیں۔ Numbers جو ہیں وہ MOFA کے پاس ہیں، MOFA نے اس پہ ایک statement بھی دی

ہے۔ بالکل یہ concern ہے ہمارے جو overseas ہیں پاکستان میں، جو پاکستانی دبئی میں ہیں۔ اس میں ہمارا جو Foreign Office

ہے fully on board ہے جتنے لوگوں کو یہاں بھیجا گیا ہے۔ ان کو کسی نہ کسی وجہ کے لیے بھیجا گیا ہے یہاں پہ۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی ان کے

ساتھ کوئی ایسا کوئی ناجائز یا ان کو law سے ہٹ کے بھیجا گیا ہے۔ لیکن وہ numbers بہت تھوڑے ہیں جتنی تعداد بتائی جا رہی ہے اس سے بہت کم

ہیں۔

جناب سپیکر: حمید صاحب نے جو letters دیے ہیں وہ آپ بھی share کر لیں انہوں نے MOFA کو دیا ہے، آپ بھی دیکھ لیجئے۔

جناب محمد عون ثقلین: جی ٹھیک ہے۔

جناب سپیکر: اور اس پہ جو آپ کی طرف سے مدد ہو سکتی ہے وہ کیجیے۔ Sure. Thank you.

جناب سپیکر: شکریہ جی۔ اگلا سوال ثمنینہ خالد گھڑ کی صاحبہ، آپ کا 136 نمبر جو question ہے۔

**Ms. Samina Khalid Ghurki:** Thank you Mr. Speaker. Question No. 136.

### **MISHAPS DURING MINING**

**136. \* Ms. Samina Khalid Ghurki:**

**Will the Minister for Energy (Petroleum Division) be pleased to state:**

- how many Labours are expired and injured due to land sliding and other mishaps during mining of exploring of different oil, gases, coals and other precious stones during last three years in the country;**
- Province-wise details of above, with the name of each company in which they were working; and**
- the details of financial package/help being granted to each affectee by the Government or company?**

**Minister for Energy (Petroleum Division) (Mr. Ali Pervaiz):** (a) The year-wise accidents and deaths in coal and other precious stone mines during the last three years as reported by the provincial Mines and Mineral Departments is as under:

#### **i. Punjab**

Year	Total No. of Fatal Accidents	Total No. of Serious Accidents	Total No. of Fatalities	Total No. of Injuries
2023	21	6	22	7
2024	20	3	26	6
2025	14	5	15	7

#### **ii. Khyber Pakhtunkhwa (KP):**

Year	Total No. of Injuries	Total No. of Fatalities
2023-26	65	160

**iii. Balochistan:**

Year	Total No. of Injuries	Total No. of Fatalities
2023	1	73
2024	0	64
2025	0	77

**iv. No accident reported in Gilgit Baltistan.**

The response from Government of Sindh and AJK is not received.

**(b)** The details regarding the companies provided by the Provinces is at **Annex-A (Punjab), Annex-B (Khyber Pakhtunkhwa) and Annex-C (Balochistan).**

**(c)** The financial package being provided to each affectee by the Inspectorate of Mines, Government of Punjab, or the concerned company is as follows:

- Death Compensation @Rs.500,000/-is paid by the employer.
- Deaths grant @ Rs. 800,000/- is paid by the Punjab Workers Welfare Fund/ Government.
- Funeral & Transportation charges of dead body @ Rs. 100,000/- is paid by the Government.

The Department of Mines Labour and Welfare, Government of Khyber Pakhtunkhwa, provides death compensation/grants ranging from PKR 1,200,000 to PKR 1,500,000 to each affected family, while financial assistance for injuries ranges from PKR 240,000 to PKR 800,000. The death and injuries grant/compensation provided by the Department of Inspectorate of Mine, Government of Balochistan, to the each affectee is as under:

Year	Amount distributed to mines workers
2023	18,050,000/-
2024	9,760,000/-
2025	2,700,000/-

(Annexures have been placed in the National Assembly Library.)

**Mr. Speaker:** Answer be taken as read, supplementary please.

جناب سپیکر: محترمہ شمینہ خالد گھر کی صاحبہ۔

محترمہ شمینہ خالد گھر کی: جناب سپیکر صاحب! منسٹری نے مجھے بہت detail میں جواب دیا ہے۔ میں اس میں supplementary یہی پوچھوں گی کہ یہ جوان کو compensation دیتے ہیں جو لوگ کام کرتے ہوئے ہمارے لوگوں کی death ہوتی ہے یا وہ injured ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو contract پہ رکھتے ہیں کیونکہ یہ منسٹری بہت زیادہ contract پہ رکھتی ہے، six months پھر بار بار وہ اس کو revise کر لیتے ہیں۔ کئی سالوں تک لوگ contract پہ رہتے ہیں۔ تو ان کو بھی اسی طرح facilitate کرتے ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے؟ جناب سپیکر: جی میاں خان صاحب۔

جناب میاں خان: سر! اس میں بالکل ہم جو سال 2023 میں صوبہ پنجاب میں 21 واقعات ہوئے ہیں اور اس میں سنگین حادثات کی تعداد چھ تھی، اموات 22 تھے اور زخمی تقریباً سات تھے۔ اس میں جو معاوضہ دیا ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے۔ اس میں آٹھ لاکھ روپے جو فوت ہو گیا اس کو دیا ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے اور جس کمپنی میں کام کر رہے تھے اس کمپنی نے پانچ لاکھ روپیہ دیا ہے یہ پنجاب حکومت میں ہے۔ اور Khyber Pakhtunkhwa میں بھی یہی same چیز ہے۔ جو وہاں اموات ہو جاتی ہیں، مزدوروں کے ساتھ جو حادثات ہو جاتے ہیں۔ ان میں Khyber Pakhtunkhwa کی گورنمنٹ 15 لاکھ روپے فوت شدگان کو دیتی ہے اور زخمی کو دو لاکھ روپیہ ملتا ہے جس کمپنی کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے اس کی طرف سے۔

Same اس طرح بلوچستان میں بھی یہی چیز چل رہی ہے اور 2023 میں جو زخمی یا فوت ہو گئے تھے total Government of Baluchistan نے ایک کروڑ 85 لاکھ روپیہ ان بندوں کو دیا ہے۔ 2024 میں بھی بلوچستان میں تقریباً 97 لاکھ 60 ہزار روپے معاوضہ دیا گیا ہے۔

2025 میں حادثات کم ہوئے تھے، ان میں بھی بلوچستان گورنمنٹ نے 27 لاکھ روپے متاثرہ بندوں کو معاوضہ دیا ہے۔ دوسری بات، ہم نے تفصیل بھی مانگی ہے، سندھ گورنمنٹ نے وہ تفصیل دی نہیں ہے کہ وہاں کتنے واقعات ہوئے ہیں، کتنی اموات ہوئی ہیں یا کتنے زخمی ہوئے ہیں۔ اگر وہ ہمیں letter کا جواب دے دیں تو باقی صوبے جو کمپنیوں کو معاوضہ دے رہے ہیں، سندھ والوں کو بھی وہی ملے گا۔ شکر یہ۔

جناب سپیکر: سپلیمنٹری، انیقہ مہدی صاحبہ۔

محترمہ انیقہ مہدی: جناب سپیکر! حکومت صرف اعداد و شمار بتانے کی بجائے یہ بھی بتائے کہ ان قیمتی جانوں کے ضیاع کا ذمہ دار کون ہے؟ کتنی کمپنیوں کو اس پہ سزا دی گئی ہے؟ کتنی کمپنیوں کے لائسنس منسوخ کیے گئے ہیں؟ آئندہ ایسے حادثات کو روکنے کے لیے کون سے عملی اقدامات کیے گئے ہیں؟

جناب سپیکر: بگٹی صاحب۔

جناب میاں خان: اس میں دیکھیں جو گورنمنٹ کی طرف سے معاوضہ دے رہے ہیں، حادثہ تو قدرت کی طرف سے ہو جاتا ہے، اُس کو تو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اگر مزدور اپنی مزدوری کر رہا ہے تو باقی گورنمنٹ کی جو ذمہ داری ہے، میں نے جو مثال دی تھی، پنجاب میں جو فوت ہو گیا ہے اس کو تقریباً 8 لاکھ روپے معاوضہ ملا ہے، جو زخمی تھے اُن کو بھی ملا ہے اور ہر بندے کو کمپنی کی طرف سے پانچ لاکھ روپے ملے ہیں۔ حادثہ تو قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو تو بندہ روک نہیں سکتا۔ شکریہ۔

### **PUNJAB LOCAL GOVERNMENT ELECTIONS**

**†129. \* Dr. Sharmila Faruqi:**

**Will the Minister for Parliamentary Affairs be pleased to state:**

- a) how the Government reconciles the Lahore High Court's directives compelling the Election Commission of Pakistan (ECP) to conduct Punjab local Government Elections within 45 days after the court noted the ECP had failed to provide verifiable security threat evidence to justify postponement with the ECP's own assessment that holding polls under current conditions could compromise safety;
- b) whether the court has demanded a compliance report by April 15, 2026 and warned of contempt proceedings for non-compliance what institutional coordination has been established between the Law Ministry and ECP to align judicial deadlines with security realities; and
- c) how will the Ministry facilitate the ECP's request for additional resources and personnel to conduct elections within the constituency mandated timeframe?

**Minister for Parliamentary Affairs (Dr. Tariq Fazal Chaudhary):** (a) The Lahore High Court has not issued any such direction to the Election Commission of Pakistan (ECP) to conduct Local Government Elections in the Punjab Province within 45 days and no copy of the alleged order of the High Court has been received in this Commission and the copy of the same has also not been provided with the question. The Election Commission of Pakistan (ECP) has not taken any plea before the Lahore High Court seeking postponement of Local Government Elections on any grounds, including security reasons.

*†(Question Hour being over, the remaining Starred Questions were treated as Un-starred and placed on the Table of the House.)*

**(b)** The Court has not demanded compliance report therefore question of compliance does not arise. However, order of the Hon'ble Lahore High Court Lahore dated 15.04.2026 is also enclosed.

**(c)** ECP has not requested for additional resources and personnel at this stage for the conduct of L.G elections. However, at the time of election the Federal and Provincial Governments assist and provide resources as per the requirement and mandate of Commission. It is further added that Under Article 140-A (1) of the Constitution each Province is empowered to establish by law a Local Government System and under Article 140-A (2) elections to the Local Government shall be held by the ECP. Article 140- A is reproduced hereunder:

“[140A. (1) Each Province shall, by law, establish a local government system and devolve administrative and political, financial responsibility and authority to the elected representatives of the local governments. (2) Elections to the local governments shall be held by the Election Commission of Pakistan.]”

Term of Local Government in Punjab was expired on 31.12.2021. Since 2019, the successive Provincial Governments of Punjab has enacted six (06) Local Government Laws from time to time. The detail is as under:

- i. On 4<sup>th</sup> May, 2019, two new acts "Punjab Local Government Act, 2019" and "Punjab Village Panchayats & Neighborhood Councils Act, 2019" were enacted.
- ii. On 3<sup>rd</sup> February, 2021, amendments were made in Punjab Local Government Act, 2019 and Punjab Village Panchayats & Neighborhood Councils Act, 2019 was repealed by virtue of "Punjab Local Government (Amendment) Ordinance, 2021.
- iii. On 11<sup>th</sup> December, 2021, an Ordinance "the Punjab Local Government Ordinance, 2021" was promulgated.
- iv. On 24<sup>th</sup> June, 2022, another law i.e. "Punjab Local Government Act, 2022"

was enacted.

- v. On 16<sup>th</sup> November, 2022 another law "Punjab Local Government Act, 2022" was enacted.

On 20<sup>th</sup> October, 2025 (6) sixth new law i.e. the "Punjab Local Government Act 2025" was enacted. The Election Commission has issued five (05) delimitation schedules (Annex-1) under the above stated applicable Local Government Laws Delimitation process was completed twice in 2022 and 2023. The process of enlistment of Electoral Groups was completed twice (Annex-II). The Election Program (Annex-III) was also issued on 14<sup>th</sup> April, 2022. The same was suspended by the Lahore High Court Multan Bench.

Now, the Government of Punjab has enacted the Punjab Local Government Act, 2025. The essential data to carry-out the delimitation process have been provided by the Government of Punjab to ECP. The ECP has issued delimitation schedule on 15<sup>th</sup> April, 2026 (sixth time) (Annex-IV) under the newly enacted the Punjab Local Government Act, 2025 and the final list of Constituencies will be published on 10<sup>th</sup> August 2026. Election Commission is committed to conduct Local Government Elections in the Province of Punjab as per constitutional and legal mandate.

(Annexures have been placed in the National Assembly Library.)

### **PROVINCE-WISE DETAILS OF THE OFFICIALS REGULARIZED**

#### **130. \* Mr. Muhammad Moin Amer Pirzada:**

**Will the Minister for Science and Technology be pleased to state the province-wise details of the officials regularized in the Ministry and its Attached Departments alongwith their names, designations, qualifications, duration of contract appointments?**

**Minister for Science and Technology (Mr. Khalid Hussain Magsi):** The detail of the officials regularized in Ministry of Science & Technology and its attached departments / organizations may be seen as per the annexures mentioned below:-

Sr. No.	Name of Organization / Ministry	Annexure
01	MoST	Annex-I
02	PCSIR	Annex-II
03	CWHR	Annex-III
04	PNAC	Annex-IV
05	PSF	Annex-V
06	PSQCA	Annex-VI

(Annexures have been placed in the National Assembly Library.)

### **DETAILS OF CONSUMPTIONS OF SNGPL AND SSGPL**

**132. \* Mr. Muhammad Moin Aamer Pirzada:**

**Will the Minister for Energy (Petroleum Division) be pleased to state:**

- a) whether it is a fact that consumption of gas is more in the months of June, July 2024 than the consumption in December, 2024 and January 2025; and**
- b) if so, the details of consumptions of SNGPL and SSGPL and reasons?**

**Minister for Energy (Petroleum Division) (Mr. Ali Pervaiz):** (a) The average consumption of gas in domestic sector in SNGPL and SSGCL's networks in the said months is as follow:

#### **MMCFD**

Description	Jun-24	Jul-24	Dec-24	Jan-25
<b>SNGPL</b>	397	376	705	768
<b>SSGCL</b>	220	215	323	328

**(b)** The overall consumption in both Suis networks keeps fluctuating round the year. Generally, the demand is consistent with historical seasonal trends i.e. in winter season, demand increases in domestic sector mainly for space and water heating compare to summer months while on the other hand, power sector demand decreases in winter months and increase during the summer months.

## **SECURITY PLAN FOR ALL HIGHWAYS**

**134. \* Dr. Sharmila Faruqi:**

**Will the Minister for Communications be pleased to state:**

- a) how the Ministry justifies the Rs. 22.328 billion cut to the National Highway Authority (NHA) PSDP allocation part of the Government's 10 percent across-the-board reduction to find fuel subsidies when NHA revenue has increase 63 percent in one year from Rs. 66 billion to Rs. 109 billion, with a projected Rs. 135 billion by June 2026;**
- b) whether the Minister has directed NHA to prepare a regular safety and security plan for all highways;**
- c) tighten the axle load policy, yet the Budget cut threatens ongoing projects including the Karachi-Quetta-Chaman Expressway and Karachi-Hyderabad Motorway; and**
- d) details of the projects will be delayed as a result of this reduction?**

**Minister for Communications (Mr. Abdul Aleem Khan):** (a) NHA is a body corporate established through an act of parliament i.e. NHA Act with the mandate to plan, promote, organize and implement programs for construction, development, operation, repair and maintenance of National Highways, Motorways and strategic roads entrusted to the authority. At present, NHA is managing federalized road network of above 14500 KMs of the country.

NHA Act 1991 (Amended 2024) Section-10(2)(vii), Chapter-III authorizes NHA to levy, collect or cause to be collected tolls on National Highways, Motorways & Strategic Roads and such other roads under its control and such terms as it deems fit.

In addition, under Section 6 (Power and functions of National Highway Council) Sub Section 1(b) of the NHA Act. National Highway Council (NHC) is Competent to lay down policies and guidelines to be followed by the Authority in the performance of its functions. Accordingly, Road Maintenance Rules (RMA),

2003 were formulated. Under RMA rules, 2003, following designated sources of receipts have been authorized to NHA:

- i. Tolls on roads and bridges;
- ii. road use related fines (e.g., overloading, traffic offence);
- iii. axle load charges;
- iv. supplementary heavy vehicle fee;
- v. international transit fees; and
- vi. border fees

The revenue collected by NHA through tolling and other sources are credited to the Road Maintenance Account (RMA) and are primarily utilized for the operation and maintenance of the existing road network. Toll revenue is a major contributor to the NHA resource envelope, which is utilized to fund the annual maintenance plan (AMP) for rehabilitation and improvement of the existing road network. PSDP allocations, on the other hand, are dedicated to development purposes, including:

- Construction of new highways and motorways.
- Expansion and upgradation of existing infrastructure.

Therefore, RMA receipts including toll revenue cannot substitute PSDP funding, as both serve fundamentally different objectives. While NHA has demonstrated significant improvement in revenue collection from Rs. 66 billion to Rs. 109 billion, with projected receipts of approximately Rs. 128 billion by June 2026. This increase pertains to maintenance and upgradation related funding streams and does not offset the requirement for development financing under PSDP allocations as per the RMA Rules, 2003.

**(b)** The Minister for Communications has consistently emphasized the critical importance of ensuring highway safety and security for road users and commuters. In this regard, necessary directions, including verbal instructions, have been conveyed to the NHA from time to time.

(c) National Highway Safety Ordinance, 2000 (NHSO-2000) provides the legal framework and defines the Axle load limits as per Schedule-VI and procedures permissible on National Highway Network and Motorways. As per NHSO-2000, NHMP is authorized agency for enforcement of the same.

The main function of NHA is to build new roads and also maintains the existing network at the optimum level to provide the best services to the road commuters. Accordingly, NHA has to provide Weigh Station Infrastructures on its road network along with provision of allied facilities like weigh operation contractor and buildings across the country.

**Action by NHA:**

- NHA has provided the infrastructure of 238x Permanent and Mobile weigh stations at strategic locations on National Highways and Motorways.
- No GOP funding is required during fiscal year 2025-26 for newly planned Karachi Port - Hyderabad Motorway (M-10). Following is the status of ongoing process of M-10 Motorway:  
M/s NESPAK has completed the Detailed Design & Commercial feasibility study.
- Project Cost is to the tune of PKR 511 Billion.
- Project financing is planned through Public Private Partnership (PPP)
- Project PC-1 forwarded to Planning Commission in March 2026.
- Allocation will be required in next fiscal year to undertake the Project.

(d) Details of projects delayed due to less funding are tabulated as below:

Sr. No	Project	PC-I Cost (Rs. in Million)	Start Date	Expected Completion
1	Yarik-Sagu-Zhob including Zhob Bypass N-50 (11.7 Km Bypass)	76,486.231 (7,595) Zhob Bypass	Contract Awarded	September, 2027
2	Awaran-Naal M-8 (168 Km)	32,244.820	February, 2024	June, 2027
3	Hoshab-Awaran M-8 (146 Km)	25,835.893	April, 2021	June, 2027
4	Nokundi-Mashkel Road Project (103 Km)	7,708.911	July, 2021	October, 2026

5	Jhal Jaho Belw Road Project (80 Km)	16,219.63	September, 2021	December, 2026
6	Quetta Western Bypass Road Project (22.7 Km)	6,890.569	August, 2021	June, 2026
7	Zhob to Kuchlak Road Project N-50 (298 Km)	63,601.560	May, 2021	June, 2028
8	Construction of an Interchange at (M-3) Abdul Hakeem Motorway at Essan, Sharaqpur, District Sheikhpura, 20 Km from M-2.	1821.87	25-11-24	30.06.2026 Rs.1259.149 are required to complete the project
9	Construction of Bhong Interchange at M-5	1780.14	13-06-25	30.06.2026 Rs. 1452.311 million are required to complete the project
10	Construction of Link Highway (4-Lane) connecting LSM at Umerkot to Narowal via Narang Mandi Package-III	27255.361	20-11-23	18.11.2026 6 Rs.8000 Million are Required to complete Narowal Bypass (Package-III)
11	Construction of 8- Lane Overhead Bridge at Imamia Colony Railway Crossing, Shahdara (N-5)	465.953	30-05-23	Project completed. However, Rs.250 Million required to clear pending liabilities and account finalization
12	Construction of Kot Pindi Das Interchange on Lahore Islamabad Motorway (M-2) KM 30+000, District Sheikhpura	1093.00	10-03-23	Project completed. However, Rs. 120.657 Million required to clear pending liabilities and account finalization.
13	Construction of Bridge on River Ravi at Syedwala (Main Project)	1437	17-10-12	Project completed. However, Rs. 150 Million required to clear pending liabilities and account finalization.
	Construction of 2.25 KM missing Link Road on Okara side to connect Rai Mansab Ali Khan Kharal Bridge (Additional Work)			

14	Lahore-Multan Motorway (M-3 section) of Karachi - Lahore Motorway	150665.025	19-02-16	Project completed. However, Rs.9,000 Million required to clear pending liabilities and account finalization.
15	Construction of Lahore - Sahiwal - Bahawalnagar Motorway (295 Km) /Construction of Lahore Ring Road to Raja Jang Interchange to Kasur Road (38 KM)	263795.863	--	Rs. 15000 Million is proposed in PSDP-2026-27
16	Extension of Margalla Highway from G.T Road (N-5)to Motorway (M-I)	6432.555	23-02-26	22-05-2027 Rs.6000 Million is required to complete the project.

(Annexures have been placed in the National Assembly Library.)

### UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

#### JUDGMENTS OF FST ON WEBSITE

**6. Ms. Naeema Kishwer Khan:**

**Will the Minister for Law and Justice be pleased to state:**

- a) whether it is a fact that there is no facility of checking cases status/uploading/searching judgements of the Federal Service Tribunal on its website; and
- b) if so, reasons thereof?

**Minister for Law and Justice (Senator Azam Nazeer Tarar):** The status of cases are available at Ministry of Law and Justice website [www.federalcourts.molaw.gov.pk](http://www.federalcourts.molaw.gov.pk) for information to all concerned.

Cause list of the Federal Service Tribunal, Islamabad and camp offices at Lahore and Karachi is uploaded on daily basis on the official website of the Tribunal i.e. [www.fst.gov.pk](http://www.fst.gov.pk) where appellants, advocates and departmental representatives may access the cause list of the cases Furthermore, the status of the case and other related information will also be available on the official website of the FST ([www.fst.gov.pk](http://www.fst.gov.pk)) by the end of May, 2026.

## **MD OGDCL EXTENDED HIS TENURE**

### **41. Mr. Sher Afzal Khan:**

**Will the Minister for Energy (Petroleum Division) be pleased to state the details of the terms and conditions of the Managing Director, Oil and Gas Development Company Limited, extended his tenure on the basis of his achievements and his perks and privileges?**

**Minister for Energy (Petroleum Division) (Mr. Ali Pervaiz):** Mr. Ahmed Hayat Lak was appointed as Managing Director/Chief Executive Officer (MD/CEO) of Oil & Gas Development Company Limited (OGDCL) on February 22, 2023, with the approval of the Board of Directors, under applicable laws and the governing framework (including the Companies Act, 2017, the State-Owned Enterprises (Governance and Operations) Act, 2023, the Articles of Association of the Company, and the State-Owned Enterprises (Ownership and Management) Policy, 2023).

The terms and conditions of his appointment, including remuneration, were determined and approved by the Board in accordance with the prescribed legal and policy framework. During the period under reference, the Company has continued to undertake its operations and initiatives in line with its approved business plans and strategic objectives, under the oversight of the Board of Directors.

### **Exploration and Discoveries**

Since February 2023, OGDCL has made 19 oil and gas discoveries across Sindh, Punjab, and Khyber Pakhtunkhwa, with an estimated cumulative production potential of approximately 17,123 barrels per day (BPD) of oil and 151 million standard cubic feet per day (MMSCFD) of gas. Multi-zone discoveries were recorded at Baragzai X-01, with tested cumulative production potential of approximately 15,005 BPD of oil and 45.36 MMSCFD of gas.

The year-wise position of discoveries is summarized below:

<b>Period</b>	<b>No. of Discoveries</b>	<b>Oil (BPD)</b>	<b>Gas (MMSCFD)</b>	<b>Daily Import Substitution (Rs. MM)</b>
FY 2023–24	5	481	29.66	283.48
FY 2024–25	5	947	34.49	279.70
FY 2025–26 (9M)	9	15,695	86.95	633.45
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>17,123</b>	<b>151</b>	<b>1196.63</b>

The Company maintained a reserve addition trend during the period. The Reserve Replacement Ratio (RRR) for the respective periods is as follows:

- FY 2023–24: 56%
- FY 2024–25: 167%
- FY 2025–26 (9M): 153%

The Company reserves life has therefore increased from 14 years to 17 years (as of 31 March 2026), reflecting a 3-year expansion.

### **Wells Brought on Production and Monetization**

During the period under reference, OGDC brought 34 wells/fields into production, reflecting continued efforts towards timely development and monetization of discovered resources.

The year-wise position of wells brought on production is summarized below:

Period	No. of Wells	Oil (BPD)	Gas (MMSCFD)	Province Distribution
FY 2022–23	5	990	18.28	Sindh (4), KPK (1)
FY 2023–24	11	4,398	43.23	Sindh (7), KPK (3), Baluchistan (1)
FY 2024–25	8	744	41.80	Sindh (5), KPK (1), Baluchistan (2)
FY 2025–26 (till April)	11	9,734	74.25	Sindh (6), KPK (2), Punjab (1), Baluchistan (2)

### **Production Enhancement and Optimization**

During the period under reference, the Company undertook a range of production enhancement and optimization measures aimed at maximizing recovery from existing fields and sustaining production levels. Oil production surpassed 40,000 BPD after 6.5 years, reaching 42,000 BPD and 830 MMSCFD Processed Gas.

A total of over 65 rig workovers and 295+ rigless interventions were carried out across various fields, resulting in an estimated incremental production impact of approximately 17,000 barrels per day (BPD) of oil and 90 million standard cubic feet per day (MMSCFD) of gas.

These efforts encompassed a structured production optimization drive, including targeted well interventions, revival of shut-in wells, artificial lift optimization, and stimulation programs across mature assets. Recently, the revival

of Jand-1 well resulted in an increase in gas production from approximately 7 MMSCFD to around 21 MMSCFD following recompletion and targeted stimulation.

As part of its strategic focus on maximizing recovery from mature assets, OGDC has prioritized the revitalization of the 100% owned Rajian Field, leveraging its significant remaining reserves and low recovery factor. Under the ongoing optimization drive, the Company has successfully deployed Electrical Submersible Pumps (ESPs) in key wells and transforming field performance, reviving shut-in wells and achieving substantial production uplift, including a nearly threefold increase in output from existing producers. The program is being scaled up through ongoing and planned workovers across multiple wells, alongside seven new development wells, to further unlock field potential. In parallel, dedicated heavy oil handling facilities are being developed to support increased production and address operational challenges such as asphaltene deposition through advanced chemical and downhole solutions. These integrated efforts position Rajian Field to achieve a target production of 15,000 BPD by FY 2027–28, reflecting a structured, technology-driven approach to brownfield revitalization and long-term value creation.

### **Field Development Projects**

The Company progressed and completed a number of field development projects aimed at enhancing production capacity and ensuring timely utilization of discovered resources.

Key developments include the commissioning of Bettani Early Production Facilities, enabling early production from the field, and the Jhal Magsi Development Project, which was brought on stream in August 2025 with a production of approximately 14 MMSCFD of gas along with condensate.

In addition, the Dakhni Compression Project, completed in February 2026, has contributed to incremental production of gas, oil, LPG, and sulphur, while the Khewari Development Project, executed using in-house resources, has a production potential of approximately 10 MMSCFD of gas.

### **Shale/Tight Gas Initiatives**

As part of advancing its shale gas initiative, OGDC has firmed up execution timelines and development planning, with the KUC-1 horizontal exploratory well targeted in FY 2025-26. The drilling program comprises three pilot exploratory wells

and four appraisal wells across the Kunnar–Pasakhi and Sinjhor West areas to delineate resource potential. The Company is simultaneously strengthening its technical roadmap, with emphasis on a robust and well-articulated shale development plan to demonstrate commitment and effectively engage service providers for successful project execution.

As part of its strategic initiative to unlock unconventional resources, OGDC is advancing a focused tight gas development program in the Indus Basin. An updated prospectivity ranking has identified high-potential blocks, while a basin-wide study expanded from 1,500 sq. km to an additional 2,600 sq. km is underway. Concurrently, development activities at priority wells are progressing through drilling and rig mobilization.

### **Oil & Gas Decarbonization Charter**

Under its sustainability agenda, OGDC has advanced key decarbonization initiatives aligned with global standards, including signing the Oil & Gas Decarbonization Charter at COP-28 and publishing its first ESG Report. The Company has partnered with OGCI and UNEP, becoming the only Pakistani entity to join OGMP 2.0, while deploying satellite-based methane monitoring (GHG-Sat) across major fields. In parallel, a Methane Emissions Inventory is being developed through the MIST tool (Carbon Limits), with pilot completion targeted by May 2026, alongside process optimization studies to reduce emissions. These efforts are supported by focused capacity building and strategy workshops, reflecting a structured approach towards emissions reduction and sustainable operations.

### **Strategic and International Initiatives**

The Company undertook a number of strategic initiatives aimed at strengthening its exploration portfolio and expanding its operational footprint.

During the period, OGDCL participated in competitive bidding rounds and was awarded seven (7) new exploration blocks, enhancing its exploration acreage. The Company also progressed its participation in offshore exploration activities, including Abu Dhabi Offshore Block-5, in collaboration with international partners.

In addition, the Company entered into cooperation and engagement with international entities, including Turkish Petroleum Overseas Company (TPOC),

SOCAR (Azerbaijan), and Zarubezhneft (Russia), for technical collaboration and exploration opportunities.

### **Transparency and Corporate Governance Recognition**

OGDC has been recognized for its corporate transparency and governance practices. In the Transparency in Corporate Reporting (TRAC) Assessment 2024 conducted by Transparency International Pakistan, the Company was ranked 3rd overall among 69 public listed companies in Pakistan, with an overall score of 93.09%, and was the highest-ranked public sector company, reflecting its strong disclosure and reporting practices.

### **Indigenization Drive**

OGDC has accelerated its Indigenization Drive to enhance localization, reduce import dependency, and strengthen operational sustainability. The initiative has delivered concrete outcomes through local manufacturing and refurbishment of critical oilfield equipment, including pipes, valves, compressor components, turbine parts, and electronic systems, alongside key projects such as the Dhodak Refinery and API-certified workshop facility. Strategic measures—such as rig refurbishment, pipe conversion, and development of portable rigs—have strengthened the local vendor ecosystem and technical capability in collaboration with LUMS Energy Institute. These efforts have yielded savings exceeding PKR 860 million and foreign exchange savings of USD 3.05 million, reflecting a focused move towards cost efficiency, supply chain resilience, and self-reliance.

### **Financial Performance & Increased Share Price**

OGDCL has significantly enhanced shareholder value, with share price rising from PKR 78.00 in June 2023 to PKR 334 in January 2026 alongside a progressive dividend increase from PKR 8.55 to PKR 15.05 and payout strengthening to 41%, reflecting strong market confidence and disciplined returns.

	UOM	2022-23	2023-24	2024-25	9M 2025-26
Share Price (on closing date)	Rs	78.00	135.37	220.56	270.64
Dividend per Share	Rs	8.55	10.10	15.05	11.00
Dividend Payout	%	16%	21%	38%	41%

### **Remuneration and Terms of Appointment of MD/CEO**

The Board of Directors, in its meeting held on February 22, 2023, approved the appointment of Mr. Ahmed Hayat Lak as Managing Director/Chief Executive Officer (MD/CEO) of Oil & Gas Development Company Limited (OGDCL), along with the pay package, as under:

- Basic Pay: Rs. 4,838,710 per month
- House Rent Allowance: 45% of Basic Pay
- Utilities: 10% of Basic Pay

In addition, all other benefits are admissible to MD/CEO as per Company policy, as applicable to officers of the Company.

### **DETAILS OF MEMBERS OF NHA**

#### **42. Mr. Sher Afzal Khan:**

**Will the Minister for Communications be pleased to state:**

- a) the details of the Members/OSDs of National Highway Authority, their names, grades, date of their proMotions to the respective grades, date of present posting, seniority position;**
- b) dates of initial appointment and procedure adopted for their appointments in NHA; and**
- c) the reasons for posting OSD for more than three months?**

**Minister for Communications (Mr. Abdul Aleem Khan): (a) & (b)** List containing required details of officers who are posted as Members of National Highway Authority is attached at Annex-A. Moreover, a list of officers who are awaiting posting is at Annex-B.

**(c)** The officers were removed from their positions on administrative grounds which includes inquiry proceedings or due to non-performance.

(Annexures have been placed in the National Assembly Library.)

جناب سپیکر: شکر یہ۔ جنید انوار صاحب، یہ کھنکھل داس صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ Leave applications.

### LEAVE OF ABSENCE

**Mr. Speaker:** Leave applications.

**Mr. Speaker:** Ms. Asma Alamgir has requested for the grant of leave for 22<sup>nd</sup> May, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

**Mr. Speaker:** Syed Amin Ul Haq has requested for the grant of leave for 22<sup>nd</sup> May, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

**Mr. Speaker:** Mr. Faisal Amin Khan has requested for the grant of leave for 10<sup>th</sup> June, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

**Mr. Speaker:** Mr. Ali Afzal Sahi has requested for the grant of leave from 10<sup>th</sup> June to 20<sup>th</sup> August, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

**Mr. Speaker:** Ms. Zeb Jaffar has requested for the grant of leave for 20<sup>th</sup> and 22<sup>nd</sup> May, 2026. Is leave granted?

(The leave was granted.)

**Mr. Speaker:** Item No. 3, Calling Attention Notice. Ms. Zahra Wadeed Fatemi Sahiba please move Item No. 3.

محترمہ زہرہ وودود فاطمی: جناب سپیکر! میرا منسٹر صاحب سے سوال ہے کہ۔۔۔۔

جناب سپیکر: ایک سینڈ۔ حفیظ صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب کدھر ہیں؟ ان کا Calling Attention Notice ہے۔ ہم اگلی

Item پر چلے جاتے ہیں، آپ تشریف رکھیں، وہ جیسے ہی تشریف لاتے ہیں تو ہم یہ Calling Attention Notice لے لیتے ہیں، تب تک

ہم Item No. 4 پر آجائیں گے۔

### MOTIONS FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT

**Mr. Speaker:** Item No. 4, Mr. Ibrar Ahmad Sahib, Chairman Standing Committee on Cabinet Secretariat to move Item No. 4.

جناب ابرار احمد: شکریہ۔ میں چیئر مین قائمہ کمیٹی برائے کابینہ سیکریٹریٹ تحریک پیش کرتا ہوں کہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس 2002 میں مزید ترمیم کرنے کے بل [آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی ترمیمی بل، 2026] پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر سے صرف نظر کی جائے۔

**Mr. Speaker:** Now, I put the Motion to the House. The question is that the Motion, as moved, be adopted.

(The Motion was adopted.)

**REPORT ON THE OIL AND GAS REGULATORY AUTHORITY (AMENDMENT) BILL, 2026**

**Mr. Speaker:** Item No. 5, Mr. Ibrar Ahmad Sahib, Chairman Standing Committee on Cabinet Secretariat to move Item No. 5.

جناب ابرار احمد: شکریہ۔ میں چیئر مین قائمہ کمیٹی برائے کابینہ سیکریٹریٹ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس 2002 میں مزید ترمیم کرنے کے بل [آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی ترمیمی بل، 2026] پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرتا ہوں۔

**Mr. Speaker:** The report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Oil and Gas Regulatory Authority Ordinance, 2002 [The Oil and Gas Regulatory Authority (Amendment) Bill, 2026] stands presented.

**MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT**

**Mr. Speaker:** Item No. 6, Mr. Ibrar Ahmad Sahib, Chairman Standing Committee on Cabinet Secretariat to move Item No. 6.

جناب ابرار احمد: میں بطور چیئر مین قائمہ کمیٹی برائے کابینہ سیکریٹریٹ تحریک پیش کرتا ہوں کہ محفوظ شدہ دستاویزاتی مواد (تحفظ و برآمدی کنٹرول) ایکٹ 1975 میں مزید ترمیم کرنے کے بل [محفوظ شدہ دستاویزاتی مواد (تحفظ و برآمدی کنٹرول) (ترمیمی) بل، 2026] پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر پر صرف نظر کی جائے۔

**Mr. Speaker:** Now, I put the Motion to the House. The question is that the Motion, as moved, be adopted.

(The Motion was adopted.)

**REPORT ON THE ARCHIVAL MATERIAL (PRESERVATION AND EXPORT CONTROL) (AMENDMENT) BILL, 2026**

**Mr. Speaker:** Item No. 7, Mr. Ibrar Ahmad Sahib, Chairman Standing Committee on Cabinet Secretariat to move Item No. 7.

جناب ابرار احمد: میں چیئر مین قائمہ کمیٹی برائے کابینہ سیکرٹریٹ تحریک پیش کرتا ہوں کہ محفوظ شدہ دستاویزاتی مواد (تحفظ و برآمدی کنٹرول) ایکٹ 1975 میں مزید ترمیم کرنے کے بل [محفوظ شدہ دستاویزاتی مواد (تحفظ و برآمدی کنٹرول) (ترمیمی) بل 2026] پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرتا ہوں۔

**Mr. Speaker:** The report of the Standing Committee on the Bill to amend the Archival Material (Preservation and Export Control) Act, 1975 [The Archival Material (Preservation and Export Control) (Amendment) Bill, 2026] stands presented.

### MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT

**Mr. Speaker:** Item No. 8, Mr. Ibrar Ahmad Sahib, Chairman Standing Committee on Cabinet Secretariat to move Item No. 8.

جناب ابرار احمد: میں چیئر مین قائمہ کمیٹی برائے کابینہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ متروکہ املاک (انتظام) ایکٹ 1975 میں مزید ترمیم کرنے کے بل [متروکہ املاک (انتظام) (ترمیمی) بل، 2026] پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر سے صرف نظر کی جائے۔

**Mr. Speaker:** Now, I put the Motion to the House. The question is that the Motion, as moved, be adopted.

(The Motion was adopted.)

### REPORT ON THE ABANDONED PROPERTIES (MANAGEMENT) (AMENDMENT) BILL, 2026

**Mr. Speaker:** Item No. 9, Mr. Ibrar Ahmad Sahib, Chairman Standing Committee on Cabinet Secretariat to move Item No. 9.

جناب ابرار احمد: میں چیئر مین قائمہ کمیٹی برائے کابینہ سیکرٹریٹ، متروکہ املاک (انتظام) ایکٹ 1975 میں مزید ترمیم کرنے کے بل، [متروکہ املاک (انتظام) (ترمیمی) بل، 2026] پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرتا ہوں۔

**Mr. Speaker:** The report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Abandoned Properties (Management) Act, 1975 [The Abandoned Properties (Management) (Amendment) Bill, 2026] stands presented.

### MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT

**Mr. Speaker:** Item No. 10, Mr. Ibrar Ahmad Sahib, Chairman Standing Committee on Cabinet Secretariat to move Item No. 10.

جناب ابرار احمد: میں چیئر مین قائمہ کمیٹی برائے کابینہ سیکریٹریٹ تحریک پیش کرتا ہوں کہ وفاقی حکومت کی ریل اسٹیٹ انتظامی اتھارٹی کے قیام کے بل [فیڈرل گورنمنٹ ریل اسٹیٹ انتظامی اتھارٹی بل، 2026] پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے میں آج تک کی تاخیر سے صرف نظر کی جائے۔

**Mr. Speaker:** Now, I put the Motion to the House. The question is that the Motion, as moved, be adopted.

(The Motion was adopted.)

**REPORT ON THE FEDERAL GOVERNMENT REAL ESTATE MANAGEMENT AUTHORITY BILL, 2026**

**Mr. Speaker:** Item No. 11, Mr. Ibrar Ahmad Sahib, Chairman Standing Committee on Cabinet Secretariat to move Item No. 11.

جناب ابرار احمد: شکریہ۔ میں چیئر مین قائمہ کمیٹی برائے کابینہ سیکریٹریٹ، وفاقی حکومت کی ریل اسٹیٹ انتظامی اتھارٹی کے قیام کے بل [فیڈرل گورنمنٹ ریل اسٹیٹ انتظامی اتھارٹی بل، 2026] پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرتا ہوں۔

**Mr. Speaker:** The report of the Standing Committee on the Bill to establish the Federal Government Real Estate Management Authority [The Federal Government Real Estate Management Authority Bill, 2026] stands presented.

**REPORT ON THE CRIMINAL LAW (AMENDMENT) BILL, 2026**

**Mr. Speaker:** Item No. 12, Raja Khurram Shahzad Nawaz Sahib, Chairman Standing Committee on Interior and Narcotics Control to move Item No. 12. Qadir Patel Sahib can you please move Item No. 12?

جناب عبدالقادر پٹیل: سر! میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آج حکم عدولی کی ہے، میرے پاس tablet نہیں ہے تو اگر مجھے دے دیا جائے تو میں کر دیتا ہوں۔

جناب سپیکنگ: اچھا، ہم دیتے ہیں۔

**Mr. Abdul Qadir Patel:** Thank you Mr. Speaker. On behalf of Chairman Standing Committee on Interior and Narcotics Control, I present the report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Pakistan Penal Code, 1860, and Code of Criminal Procedure (1898) [The Criminal Law (Amendment) Bill, 2026].

**Mr. Speaker:** The report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Pakistan Penal Code, 1860, and Code of Criminal Procedure (1898) [The Criminal Law (Amendment) Bill, 2026] stands presented.

**MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT**

**Mr. Speaker:** Item No. 13, Azim Uddin Zahid Sahib please move Item No. 13.

کمیٹی کے کوئی اور ممبر ہیں تو بتائیے؟ مہتاب اکبر راشدی صاحبہ please move کیجیے۔ آپ کو کاغذ نہیں ملے گا۔

**Ms. Mahtab Akbar Rashdi:** Thank you Mr. Speaker! On behalf of Chairman Standing Committee on Federal Education and Professional Training, I move that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Pakistan Study Centres Act, 1976 [The Pakistan Study Centres (Amendment) Bill, 2026], till today be condoned.

**Mr. Speaker:** Now, I put the Motion to the House. The question is that the Motion, as moved, be adopted.

(The Motion was adopted.)

**REPORT ON THE PAKISTAN STUDY CENTRES (AMENDMENT) BILL, 2026**

**Mr. Speaker:** Mahtab Sahiba to move Item No. 14.

**Ms. Mahtab Akbar Rashdi:** I, on behalf of Chairman Standing Committee on Federal Education and Professional Training, present the report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Pakistan Study Centres Act, 1976 [The Pakistan Study Centres (Amendment) Bill, 2026].

**Mr. Speaker:** The said report stands presented.

**MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT**

**Mr. Speaker:** Mahtab Sahiba to move Item No. 15.

**Ms. Mahtab Akbar Rashdi:** I, on behalf of Chairman Standing Committee on Federal Education and Professional Training, to move that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Federal Board of Intermediate and Secondary Education Act (LXVIII of 1975) [The Federal Board of Intermediate and Secondary Education (Amendment) Bill, 2026], till today be condoned.

**Mr. Speaker:** Now, I put the Motion to the House. It has been moved that delay in presentation of report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Federal Board of Intermediate and Secondary Education Act (LXVIII of

1975) [The Federal Board of Intermediate and Secondary Education (Amendment) Bill, 2026], till today be condoned.

(The Motion was adopted.)

**REPORT ON THE FEDERAL BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION (AMENDMENT) BILL, 2026**

**Mr. Speaker:** Mahtab Sahiba to move Item No. 16.

**Ms. Mahtab Akbar Rashdi:** I, on behalf of Chairman Standing Committee on Federal Education and Professional Training, to present the report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Federal Board of Intermediate and Secondary Education Act (LXVIII of 1975) [The Federal Board of Intermediate and Secondary Education (Amendment) Bill, 2026].

**Mr. Speaker:** The said report stands presented.

**MOTION FOR CONDONATION OF DELAY IN THE PRESENTATION OF REPORT**

**Mr. Speaker:** Mahtab Sahiba to move Item No. 17.

**Ms. Mahtab Akbar Rashdi:** I, on behalf of Chairman Standing Committee on Federal Education and Professional Training, to move that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Centres of Excellence Act, 1974 [The Centres of Excellence (Amendment) Bill, 2026], till today be condoned.

**Mr. Speaker:** Now, I put the Motion to the House. It has been moved that delay in presentation of report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Centres of Excellence Act, 1974 [The Centres of Excellence (Amendment) Bill, 2026], till today be condoned.

(The Motion was adopted.)

**REPORT ON THE CENTRES OF EXCELLENCE (AMENDMENT) BILL, 2026**

**Mr. Speaker:** Mahtab Sahiba to move Item No. 18.

**Ms. Mahtab Akbar Rashdi:** I, on behalf of Chairman Standing Committee on Federal Education and Professional Training, present the report of the Standing Committee on the Bill further to amend the Centres of Excellence Act, 1974 [The Centres of Excellence (Amendment) Bill, 2026].

**REPORT ON THE ELECTRICITY (AMENDMENT) BILL, 2026**

**Mr. Speaker:** Mr. Muhammad Idrees, Chairman Standing Committee on Power Division, to move Item No. 19.

جناب محمد اوریس: میں چیئر مین قائمہ کمیٹی برائے بجلی ڈویژن، بجلی (ایکٹ نمبر 9 بابت 1910ء) میں مزید ترمیم کرنے کے بل [بجلی (ترمیمی) بل 2026] پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرتا ہوں۔

**Mr. Speaker:** The said report stands presented.

**REPORT ON THE REGULATION OF GENERATION, TRANSMISSION AND DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER (AMENDMENT) BILL, 2026**

**Mr. Speaker:** Mr. Muhammad Idrees, to move Item No. 20.

جناب محمد اوریس: میں چیئر مین قائمہ کمیٹی برائے بجلی ڈویژن، برقی توانائی کی پیداوار، ترسیل اور تقسیم کو منضبط کرنے کے ایکٹ 1997ء (ایکٹ نمبر 40 بابت 1997 میں مزید ترمیم کرنے کے بل [برقی توانائی کی پیداوار، ترسیل اور تقسیم کو منضبط کرنے کی بابت (ترمیمی) بل 2026] پر قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرتا ہوں۔

**Mr. Speaker:** The said report stands presented.

**THE INTER-BOARDS COORDINATION COMMISSION (AMENDMENT) BILL, 2025**

**Mr. Speaker:** Ms. Rabia Naseem Sahiba, to move Item No. 21.

**Ms. Rabia Naseem Farooqi:** On behalf of Minister for Federal Education and Professional Training, I move that the Bill to amend the Inter-Boards Coordination Commission Act, 2023 (XIII of 2023) [The Inter-Boards Coordination Commission (Amendment) Bill, 2025], as reported by Standing Committee, be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker:** Now, I put the Motion to the House. It has been moved that the Bill to amend the Inter-Boards Coordination Commission Act, 2023 (XIII of 2023) [The Inter-Boards Coordination Commission (Amendment) Bill, 2025], as reported by Standing Committee, be taken into consideration at once.

(The Motion was adopted.)

**Mr. Speaker:** Clause by clause reading. The Bill is now taken up as clause by clause.

**Mr. Speaker:** Clause 2. Now, I put clause 2 to the House. The question is that clause 2, do stand part of the Bill.

(The clause 2 stands part of the Bill.)

**Mr. Speaker:** Clause 1, Preamble and Short Title. Now, I put clause 1, Preamble and Short Title to the House. The question is that clause 1, Preamble and Short Title, do stand part of the Bill.

(The clause 1, Preamble and Short Title stands part of the Bill).

**Mr. Speaker:** Ms. Rabia Naseem Sahiba, to move Item No. 22.

**Ms. Rabia Naseem Farooqi:** On behalf of Minister for Federal Education and Professional Training, I move that the Bill to amend the Inter-Boards Coordination Commission Act, 2023 (XIII of 2023) [The Inter-Boards Coordination Commission (Amendment) Bill, 2025], be passed.

**Mr. Speaker:** Now, I put the Motion to the House. It has been moved that the Bill to amend the Inter-Boards Coordination Commission Act, 2023 (XIII of 2023) [The Inter-Boards Coordination Commission (Amendment) Bill, 2025], be passed.

(The Motion was adopted and the Bill was passed.)

**THE ISLAMABAD CAPITAL TERRITORY PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
(REGISTRATION AND REGULATION) (AMENDMENT) BILL, 2026**

**Mr. Speaker:** Ms. Rabia Naseem Sahiba, to move Item No. 23.

**Ms. Rabia Naseem Farooqi:** On behalf of Minister for Federal Education and Professional Training, I move that the Bill to amend the Islamabad Capital Territory Private Educational Institutions (Registration and Regulation) Act, 2013 [The Islamabad Capital Territory Private Educational Institutions (Registration and Regulation) (Amendment) Bill, 2026], as reported by Standing Committee, be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker:** Now, I put the Motion to the House. It has been moved that the Bill to amend the Islamabad Capital Territory Private Educational Institutions (Registration and Regulation) Act, 2013 [The Islamabad Capital Territory Private Educational Institutions (Registration and Regulation) (Amendment) Bill, 2026], as reported by Standing Committee, be taken into consideration at once.

(The Motion was adopted.)

**Mr. Speaker:** Clause by clause reading. The Bill is now taken up as clause by clause.

**Mr. Speaker:** Clause 2. Now, I put clause 2 to the House. The question is that clause 2, do stand part of the Bill.

(The clause 2 stands part of the Bill.)

**Mr. Speaker:** Clause 3. There is an amendment in clause 3 standing in the name of Ms. Naeema Kishwer Khan, MNA. Ms. Naeema Kishwer Khan Sahiba to move the amendment.

محترمہ نعیمہ کشور خان: کون سے ایجنڈا نمبر ہے؟

جناب سپیکر: ایجنڈا نمبر 23 ہے۔

محترمہ نعیمہ کشور خان: ایسے پھنسے ہیں کہ ہمارے ایک ممبر صاحب تھے انہوں نے ایک میٹنگ میں کہا تھا کہ ہم hard ہیں تو soft ان کو سمجھ آتے آتے وقت لگے گا۔

جناب سپیکر: آپ hard نہ رہیں آپ soft ہو جائیں۔ آج کل زمانہ softness کا ہے نہیں تو لڑائیاں کیسے ختم ہوں گی۔

محترمہ نعیمہ کشور خان: میں نکالتی ہوں سر۔ اچھا۔ قائمہ کمیٹی کی رپورٹ کردہ درالحکومت اسلام آباد کے نجی تعلیمی رجسٹریشن و انضباط

(ترمیمی) بل 2026 میں شق نمبر 3 میں دفعہ 2 میں لفظ ایک کو لفظ دو میں تبدیل کیا جائے۔

جناب سپیکر: پارلیمانی سیکریٹری صاحبہ؟ do you oppose it?

**Ms. Rabia Naseem Farooqi:** Sir, I oppose.

**Mr. Speaker:** Now, I put the amendment, as moved, by Ms. Naeema Kishwer Khan Sahiba to the House. The question is that the amendment, as moved, be adopted.

(The amendment was rejected.)

**Mr. Speaker:** Clause 3. Now, I put clause 3 to the House. The question is that clause 3, do stand part of the Bill.

(The clause 3 stands part of the Bill.)

**Mr. Speaker:** Clause 4. Now, I put clause 4 to the House. The question is that clause 4, do stand part of the Bill.

(The clause 4 stands part of the Bill.)

**Mr. Speaker:** Clause 1, Preamble and Short Title. Now, I put clause 1, Preamble and Short Title to the House. The question is that clause 1, Preamble and Short Title, do stand part of the Bill.

(The clause 1, Preamble and Short Title stands part of the Bill.)

**Mr. Speaker:** Ms. Rabia Naseem Sahiba, to move Item No. 24.

**Ms. Rabia Naseem Farooqi:** I, on behalf of Minister for Federal Education and Professional Training, move that the Bill to amend the Islamabad Capital

Territory Private Educational Institutions (Registration and Regulation) Act, 2013 [The Islamabad Capital Territory Private Educational Institutions (Registration and Regulation) (Amendment) Bill, 2026], be passed.

**Mr. Speaker:** Now, I put the Motion to the House. It has been moved that the Bill to amend the Islamabad Capital Territory Private Educational Institutions (Registration and Regulation) Act, 2013 [The Islamabad Capital Territory Private Educational Institutions (Registration and Regulation) (Amendment) Bill, 2026], be passed.

(The Motion was adopted and the Bill was passed.)

**CALLING ATTENTION NOTICE REG: RAPID INCREASE IN CASES OF HIV / AIDS, PARTICULARLY AMONGST CHILDREN ACROSS THE COUNTRY**

جناب سپیکر: یہ Calling Attention Notice کے لیے آگئے ہیں Minister for Health جی؟ آپ جواب دیں

گے؟ جی Calling Attention Notice لے لیں جی، زہرہ وودوفاطمی صاحبہ۔

محترمہ زہرہ وودوفاطمی: بہت شکر یہ سپیکر صاحب۔ سپیکر صاحب! میرا سوال ہے کہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں آج کل HIV بہت زیادہ

پھیل رہا ہے۔

جناب سپیکر: ایک سینڈ پہلے Calling Attention move کیجئے۔

محترمہ زہرہ وودوفاطمی: وہ آگے ہمارے Minister صاحب۔۔۔۔

جناب سپیکر: نہیں، پہلے Calling Attention move تو کیجئے آپ۔ یہ پڑھیے تو کہ کیا Calling Attention ہے۔

زہرہ وودوفاطمی: IPAD کھولنا پڑے گا مجھے۔

جناب سپیکر: ہاں وہ کھولیں ناں۔

محترمہ زہرہ وودوفاطمی: Paper ہوتا تو۔

جناب سپیکر: نہیں، paper ختم ہو گیا ہے اب اگر آپ نے کام نہیں کیا، دیں paper جی ان کو جلدی سے، آ رہا ہے paper آخری

دفعہ ہے آپ کے لیے۔ یہ آ رہا ہے paper۔ ابھی بند کیا تھا سپیکر صاحب!

جناب سپیکر: اس کی battery charge رکھا کریں ناں۔ یہ لیجیے کاغذ لے لیجیے، ختم کر لیں اب۔ آپ کو بھی دیں گے ابھی اور بھی بڑے

بولنا چاہ رہے ہیں۔ ہم ساڑھے سات تک چلائیں گے don't worry۔

**Ms. Zahra Wadood Fatemi:** I invite attention of the Minister for National Health Services, Regulations and Coordination, to a matter of urgent public

importance regarding rapid increase in cases of HIV / Aids, particularly amongst children across the country, causing grave concern amongst the public.

جناب سپیکر: جی سید مصطفیٰ کمال صاحب to make a brief statement. Please brief to کچھے گا۔

وزیر برائے قومی صحت خدمات، ضوابط و ہم آہنگی (سید مصطفیٰ کمال): Sir! Already گورنمنٹ کی توجہ ہے اس کے اوپر۔ اور یہ آخری outbreak جو ہوا ہے وہ Metroville کا ایک hospital ہے کراچی میں، اور یہ last year ہوا ہے سارا۔ پچھلے دنوں دو خبریں آئی ہیں مئی، اپریل میں، ایک تونسہ کے حوالے سے اور ایک اسلام آباد میں outbreak کے حوالے سے۔

ان دو خبروں کے حوالے سے میں صرف یہ بتانا چلوں کہ وہ outbreak جو ہے وہ اس سال اور اس مہینے کا نہیں ہے۔ 2024 دسمبر میں تونسہ میں ہوا تھا اور اسلام آباد میں کوئی outbreak نہیں ہے۔ تو ان خبروں میں جو چیزیں آئیں اس کے اوپر Prime Minister نے ایک کمیٹی بنائی، اس کمیٹی کی بھی یہ رپورٹ ہے۔ کہ یہ سر، جو تونسہ میں اور کراچی میں اور لاڑکانہ میں جو incidents outbreak کے ہوئے ہیں بچوں میں، وہ یقیناً syringes اور ڈرپ ہے کے reuse سے ہوئے ہیں سارے۔

جو provincial authorities ہیں ان سے Federal Government کا اچھا coordination ہے اور ہم نے ان تمام واقعات کے اوپر، یہ میرے زمانے کی بات نہیں ہے اس سے پہلے کی بات ہے لیکن ہم نے اس کے اوپر جو بھی necessary actions تھے وہ تمام لیے ہیں۔ میں آپ کو سر یہ بتا دوں کہ اس وقت ملک میں جو ایک estimate ہے، UNDP اس کو evaluate کرتا ہے، اس کا جو estimate ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی 3 لاکھ 66 ہزار لوگ اس HIV میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس بھی کوئی exact نمبر نہیں ہے، یہ ان کی evaluation ہے۔ اس حوالے سے جو بھی ان کا ایک formula ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے پاس جو ہمارے ART centers ہیں پاکستان بھر میں، اس میں تقریباً 84 ہزار لوگ listed ہیں۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چلوں آپ کی وساطت سے اس august House کو کہ پاکستان میں HIV کی جو دوا ہے وہ shelf پر موجود نہیں ہے۔ جس کو بھی HIV ہے اس کو گورنمنٹ کے اس ART center پر ہی آنا ہے۔

ایک سال پہلے ان ART centers کی تعداد جو 52 تھی ملک بھر میں، وہ آج 98 ہے۔ تو تقریباً ایک سال میں ہم نے اسے ڈبل کیا ہے اور ہم اگلے آٹھ مہینوں میں اس کو 166 کرنے جا رہے ہیں۔ جو 84000 آگئے ہیں، جو listed ہیں، ان میں سے بھی جن کے پاس دوا جا رہی ہے، وہ تقریباً 61 ہزار لوگ ہیں یعنی جو یہ دوائیں لے رہے ہیں۔ ان registered لوگوں میں بھی 20 ہزار لوگ جو ہیں وہ missing ہیں۔

سر! آپ کے ذریعے قوم کو، لوگوں کو آگاہی کے حوالے سے، اس august House کو اور MNA صاحبہ جنہوں نے یہ سوال کیا ہے، ان کے ساتھ بہت ہی مؤدبانہ گزارش کے ساتھ کہ قوم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ HIV لا علاج مرض نہیں ہے۔ یہ قابل علاج مرض ہے اور اس سے کوئی

certain death نہیں ہو جاتی۔ جب ایک دفعہ HIV diagnose ہونے کے بعد دوا لے لی جاتی ہے تو اس کے بعد انسان، جو یہ مریض ہے، وہ ایک normal زندگی گزارتا ہے۔ اور وہ اس کو spread نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ جو دوا لے لیتے ہیں وہ اس کو spread نہیں کر سکتے۔

سر! اس کی ایک key population ہے، جس میں یہ تمام چیزیں وہ پائی جاتی ہیں۔ Definitely drug users, sex workers اور اس میں اور کئی categories ہیں۔ اور یہ night parties میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں، اس میں بہت سارے ایسے incidents ہیں جن کی وجہ سے، اور یقیناً syringes کے غلط استعمال سے اور اسی طرح سے ڈرپ کے غلط استعمال سے بھی HIV cases میں اضافہ ہوا ہے

ہم definitely تمام صوبوں کے ساتھ coordination میں ہیں کیونکہ implementation and enforcement ساری ان کے پاس ہے ملک بھر میں، تو ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کی awareness کو بڑھایا جائے۔

اور اس میں اس کے centers کو بڑھایا جائے۔ سر last year and 2020 میں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ پورے پاکستان میں 2020 میں 37000 لوگوں کو ٹیسٹ کیا گیا تھا 2026 کا اگر میں آپ کو بتاؤں 25-26 میں تو تین لاکھ 72 ہزار لوگوں کو test کیا گیا، ان کی screening ہوئی ہے صرف اگر آپ کو پچھلے سال اور اس سال میں فرق بتاؤں تو پچھلے سال 193000 لوگوں کو screen کیا گیا تھا اور اس سال جو ہے 372000 لوگوں کو screen کیا گیا ہے تو جتنی آپ screening بڑھائیں گے جتنے آپ centers بڑھائیں گے، لوگ facilitate ہوں گے، screen ہو گی اور پھر دوا جو ہے provide کی جائے گی اس حوالے سے اور ہمارے international partners بھی ہیں جو ہمیں support کرتے ہیں اور ہم صوبوں کے ساتھ مل کر اس menace کو، ہم نے اس پہ نظر بھی رکھی ہوئی ہے۔ اور سراسی حوالے سے جو reusable syringes ہیں، وہ 5 categories کی syringes ہیں جس کو ban کر دیا گیا ہے، وہ reuse نہیں ہو سکتیں DRAP میں، اور اسی طرح سے جو 10CC کی جو سرنج ہے، اس کے اوپر اس وقت stakeholders سے اور ہمارے پاس گورنمنٹ میں debate چل رہی ہے۔

اس کے کچھ usage جو ہیں وہ tertiary care میں بہت زیادہ ہیں۔ تو ہم اگر یہ کریں گے کہ صرف ان hospitals کو supply کریں گے اور وہ market میں وہ available نہیں ہو گی، تو اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے thank you۔

جناب ڈپٹی سپیکر: جی زہرہ دود صاحبہ to ask one question۔

زہرہ دود فاطمی: Minister صاحب آپ کا کہنا صحیح ہے HIV جو ہے وہ لاعلاج بیماری نہیں ہے، علاج ہو سکتا ہے اس کا۔ لیکن problem یہ ہے کہ علاج کرانے کے لیے بھی پہلے root cause پہ جانا پڑتا ہے۔ اور اس کی root cause جو ہے وہ بہت simple سی

ہے کہ syringes ہیں، یہ ہمارے جو fake dentists بیٹھے رہتے ہیں ہر کنارے پہ، جو barbers ہیں، ان لوگوں کی روک تھام گورنمنٹ کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ کیونکہ ان کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں جو وہ استعمال کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، وہ ہمارے لیے problem بنتی ہیں۔

اب اگر چھوٹے بچے newborn babies کو بھی HIV ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ماؤں کو بھی یہ بیماری ہوگی۔ تو اگر گھر میں husband wives میں سے کسی ایک کو ہو جائے تو دوسروں کو بھی لگنے کا chance بہت زیادہ ہوتا ہے، بلکہ 99% chance ہوتا ہے کہ دوسروں کو لگے گی۔ اور اگر عورت ابھی بچہ پیدا کرنے والی ہے تو اس کو naturally جو بچہ پیدا ہوتے ہیں وہ بھی HIV positive ہوتے ہیں تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ multiply ہوتا جا رہا ہے۔

آپ کا کہنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ data لے رہے ہیں اور لوگوں کو زیادہ پتا چل رہا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایک بھی مریض کیوں آگے جاتا ہے؟ ہم لوگ کیوں نہیں اس کی روک تھام کر سکتے؟

جناب ڈپٹی سپیکر: شکریہ۔ مصطفیٰ کمال صاحب۔

سید مصطفیٰ کمال: Enforcement صوبوں کے پاس ہے۔ Hospitals کو check کرنا کہ صوبوں کے اندر illegal doctor practice کر رہے ہیں، وہ اور plus ہمارے پاس جو regulation ہے، وہ ICT کی ہے۔ IHRA دیکھتا ہے اسلام آباد، AJK, GB۔ ہماری صوبوں کے ساتھ بہت اچھی coordination ہے۔ Root cause جو MNA صاحبہ بتا رہی ہیں، یہ صرف وہ نہیں ہے۔ سر! ہمارے معاشرے کی کچھ بہت عجیب سی چیزیں ہیں، میں ان کو یہاں پر بیان نہیں کر سکتا۔ میرے پاس پورا data ہے اور میں MNA صاحبہ کو دے دوں گا۔ ان کو اس سے پتا چل جائے گا کہ غلط syringes کے استعمال سے HIV Positive بچوں کی تعداد کتنی ہیں، اور night parties میں drug استعمال کرنے کے جو incidents ہوتے ہیں، اس سے ہمارے پاس کتنے مریض آئے ہیں اور detect ہوئے ہیں۔ یہاں میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے۔ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور ہم awareness پہ بہت زیادہ زور دے رہے ہیں۔ یہ کوئی ایسا taboo نہیں ہے کہ کسی کو خدا نخواستہ یہ ہو جائے۔

دنیا بھر سے جو پاکستانی جب deport ہوتے ہیں تو وہ medical reasons کی وجہ سے ہوتے تھے، لیکن ان کے passports پر یہ نہیں لکھا جاتا تھا۔ اب سے چند ماہ پہلے ہم نے airport security اور FIA کے ساتھ مل کر، جو ہمارے پاس border health department ہے، جو تمام borders پہ ہوتا ہے، ہمارے airports پہ بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم نے ایک exercise شروع کر دی کہ جو پاکستانی deport ہو کر دنیا بھر سے آ رہے ہیں، ان کا data ہمارے پاس پہلے سے آ جاتا ہے۔ ہم انہیں medical checkup کے بغیر نہیں جانے دیتے۔ یہ airports پہ کام ہوتا ہے، کیونکہ

بہت ساری reports یہ ہیں کہ وہاں سے وہ HIV لے کر آئے ہیں، ان کو check نہیں کیا گیا، ان کے passports پہ یہ مہر نہیں لگی ہوئی اور وہ چلے جاتے تھے۔ یہ بہت ساری multiple reasons ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ data share کر لوں گا تاکہ ان کو visibility آجائے گی کہ اصل real cause کیا ہے اور کہاں سے یہ HIV کے patients ہمارے پاس زیادہ آ رہے ہیں۔

جناب ڈپٹی سپیکر: شکریہ۔ ہما اختر چغتائی صاحبہ، to ask one question،

محترمہ ہما اختر چغتائی: Thank you very much, Mr. Deputy Speaker. میرا سوال Health Minister

صاحب سے یہ ہے کہ health service facilities provinces میں ہیں، مگر federal level کے اندر جو cases آتے ہیں، ان کو کس طرح سے ہم facilitate کر رہے ہیں؟ Because ہمارا یہ Call Attention Notice ہے اور اس میں ہم نے بچوں کے اوپر emphasis اسی لیے کیا ہے کہ this is an alarming thing۔ ہمیں پتہ ہے کہ بڑے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، اس میں لڑکیاں اور لڑکے بھی ہیں، transgender بھی ہیں اور سب ہیں، مگر ہمارے لیے alarming یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ان بچوں کی عمر کم ہو جاتی ہے۔

جناب ڈپٹی سپیکر: سوال آ گیا ہے۔ جی مصطفیٰ کمال صاحب۔

سید مصطفیٰ کمال: یقیناً جو MNA صاحبہ فرما رہی ہیں، بہت افسوسناک بات ہے۔ بچوں کے میں نے آپ کو تین جگہوں کے incidents بتائے کہ ایک کراچی کا ایک علاقہ ہے، Metroville، وہاں ایک Government hospital اور اسی طرح تو نسہ میں December 2024 میں ہوا، اور Larkana میں ہوا۔ یہاں بھی outbreaks ہوئے اور غلط syringes کے غلط استعمال سے ہوئے اور یہ جو drip ختم ہو جاتی ہیں، ان کو reuse کرتے تھے۔ اس پہ investigation ہوئی، Provincial Governments نے actions لیے اور ان کو ختم کیا۔ جو MNA صاحبہ فرما رہی ہیں۔ اسلام آباد میں 618 کے قریب total cases ہیں اور ان 618 cases میں تقریباً 408 cases اسلام آباد کے رہائشی نہیں ہیں، وہ چونکہ اسلام آباد attract کرتا ہے Khyber Pakhtunkhwa، کو، GB، وہاں سے patients آتے ہیں، پنڈی سے patients آتے ہیں اور 210 patients اسلام آباد کے ہیں اور اس کی reason وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ اس پہ 90 percent وہ cases ہیں جن میں بچے اس شامل میں نہیں ہیں۔ یہ سارے adults ہیں اور جو ہماری معاشرتی خرابیاں ہیں، ان کی وجہ سے یہ HIV لے کر hospitals میں آ رہے ہیں۔

جناب ڈپٹی سپیکر: شکریہ۔ تمکین اختر نیازی صاحبہ، ایک سوال پوچھیں۔

محترمہ تمکین اختر نیازی: Thank you very much, Sir میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ Government کیا strategy apply کرتی ہے ensuring کے لیے کہ early diagnosis بچوں کا ہو اور special attention بچوں کو دی جائے اور of course اس کے بعد adults کے لیے، لیکن early diagnosis بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے حکومت نے کیا انتظام کیا؟

جناب ڈپٹی سپیکر: مصطفیٰ کمال صاحب۔

سید مصطفیٰ کمال: جیسے میں نے بتایا اس کے لیے ART centers کی تعداد میں 100 percent اضافہ کیا میں نے ایک سال میں اور یہ پہلے 52 تھے، اب 98 ہیں۔ میں نے جیسے آپ کو number بتایا کہ پچھلے سال جو tests ہوئے تھے، وہ 193,000 ہوئے تھے اور اس سال جو tests ہوئے ہیں، وہ 372,000 ہیں۔ ایک سال میں 372,000 tests پہ ہم گئے ہیں، یہ history میں پہلی دفعہ اتنے tests ہوئے ہیں۔

جہاں تک بچوں کی بات ہے۔ سر! ہم ایک law پہ کام کر رہے ہیں کہ یہ must ہو کہ وہ operation جہاں پہ doctor skin cross کرتا ہے، skin cross کرنے والے سارے operations میں ان tests کا کرایا جانا، نہ کہ صرف HIV بلکہ سارے Hepatitis B, C tests کا کرایا جانا لازمی قرار دیا جائے۔ جب آپ skin cross کرتے ہیں تو doctor بھی vulnerable ہوتا ہے۔ Definitely آپ random بچوں کو جا کر screen نہیں کر سکتے، unless کہ ان سے کوئی symptoms خدا نخواستہ نکل آئیں۔ تو Provincial Governments ہمارے ساتھ بہت زیادہ اس میں cognizant ہیں اور جن چیزوں سے یہ پھیلتا ہے، وہاں پر Provincial Government کے barbers ہیں اور اس طرح کے چھوٹے clinics ہیں، وہاں پر بہت زیادہ raids ہوتے ہیں۔ اس کو regulate کرتے ہیں اور روزانہ کوئی نہ کوئی اس کے اوپر چیزیں نکل کر آ رہی ہوتی ہیں۔ جہاں تک humanly possible ہے، یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، and we are very cognizant, very alert about this whole situation

جناب ڈپٹی سپیکر: شکریہ۔ شہناز سلیم ملک صاحبہ ایک سوال پوچھیں۔

محترمہ شہناز سلیم ملک: شکریہ۔ منسٹر صاحب نے سب کچھ تفصیل سے بتا دیا، لیکن میں اپنے division کے بارے میں تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گی۔ Dera Ghazi Khan Division میں حالیہ برسوں میں AIDS کے cases میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے اور پورے division میں ہی ایسا ہوا ہے، یہ صرف تونسہ کی بات نہیں ہے۔ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ محکمہ صحت نے HIV کے بڑھتے ہوئے cases کو کم کرنے کے لیے کون سے ایسے اقدامات کیے ہیں جو اس میں کمی لائیں؟ اور

HIV کے بچاؤ کے لیے عوامی آگاہی اور محفوظ طریقوں کے لیے کون سے اقدامات کیے گئے ہیں یا مزید کون سی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے؟

جناب ڈپٹی سپیکر: مصطفیٰ کمال صاحب۔

سید مصطفیٰ کمال: میں نے already پچھلے جواب میں بتایا ہے کہ regulation کی احتیاطی تدابیر والی بات ہے۔ یہ تو Provincial Governments کے پاس ہے اور ہم ان سے coordination میں ہیں۔ ہمارے پاس جتنی بھی information ہے اور جتنی بھی دنیا کی agencies ہمارے ساتھ healthcare کے حوالے سے کام کرتی ہیں تو تمام parties سے بالاتر ہو کر میں health کے حوالے سے کہوں گا کہ چاروں صوبوں کے Health Ministers سے میری زبردست coordination ہے۔ AJK and GB والوں سے میری زبردست coordination ہے اور جس دن ذمہ داری ملی تھی، I pick up the phone and called everyone، اور سیاست اور نظریے سے بالاتر ہو کر، health کے شعبے میں مجھے تو کوئی problem نہیں ہے Provincial Governments کے ساتھ deal کرنے میں، at this and، they are doing a fabulous job۔

میں یہ کہنا چاہوں گا کہ معاشرے میں ایک myth ہے کہ یہ لاعلاج مرض ہے۔ یہ لاعلاج مرض نہیں ہے بلکہ اس کا علاج ہے۔ The moment, patient دوا کھانے لگتا ہے، وہ normal انسان ہو جاتا ہے اور جس نے دوا لے لی، وہ پھر spread نہیں کرتا تو اس کے ساتھ معاشرہ بھی normal برتاؤ کرے، اس کو isolate نہ کرے، اس کے ساتھ bad behave نہ کرے۔ اب یہ جن بچوں کو لگ رہا ہے، definitely ان کا تو قصور نہیں ہے اور اگر جن کا خدا نخواستہ کوئی قصور بھی ہے، ان کو بھی ہمیں society میں اس نظر سے نہیں دیکھنا ہے۔ یہ ایک لاعلاج مرض نہیں ہے، اس کی دوا موجود ہے اور اگر کسی کو کوئی شک و شبہ ہے تو test کرائیں۔

سر! اب ہم نے ایک helpline شروع کر دی ہے اور اگلے ایک سے دو ہفتے میں 1166 inaugurate کرنے جا رہا ہوں، جو صرف HIV کے اوپر ہے۔ ہم ایسے experts تیار کر رہے ہیں کہ کسی کو گھر میں خدا نخواستہ یہ problem ہو گئی اور وہ گھر میں بات نہیں کر سکتا یا کر سکتی یا وہ کسی دوست کو نہیں بتا سکتے تو ان کے پاس ایک Toll-Free helpline ہو، جہاں پر کوئی بات کر کے guidance لے اور وہ وہاں پر اس کی awareness حاصل کرے تو ہم یہ شروع کرنے جا رہے ہیں اگلے دو ہفتوں میں ان شاء اللہ۔

جناب ڈپٹی سپیکر: محترمہ آسیہ ناز تنولی صاحبہ۔ to ask one question.

محترمہ آسیہ ناز تنولی: شکریہ جناب ڈپٹی سپیکر! منسٹر صاحب نے تو بہت تفصیل سے جوابات دیئے ہیں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو data جمع کیا جا رہا ہے وہ اضلاع کے لحاظ سے جمع کیا جا رہا ہے یا کہ city کے لحاظ سے؟ کیونکہ کراچی میں بہت زیادہ اضلاع موجود ہیں اور ان اضلاع میں مختلف data موجود ہونا چاہیے۔ اور جو متاثرہ مریض ہیں، اس کا ٹیسٹ کروانے کے لیے دو سے چار ہفتے ضروری ہوتے ہیں، چار ہفتے بعد ہی اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور ابھی تک یعنی پچھلے پانچ سالوں میں کتنے cases ایسے report ہوئے ہیں؟

جناب ڈپٹی سپیکر: ایک اور Calling Attention ہے مگر اس سے پہلے میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ ختم ہو رہا ہے، یہ آخری سوال ہے۔ دو منٹ تشریف رکھیں۔

محترمہ آسیہ ناز تنولی: ڈیٹا اور نظام کو مضبوط بنانے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں، خاص طور پر ان کا بتائیں اور awareness programme کے لیے ٹی وی پر ریڈیو پر FM پہ کتنے ایسے پروگرام ہیں جو ابھی تک نشر کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ جناب ڈپٹی سپیکر: مصطفیٰ کمال صاحب۔

**Syed Mustafa Kamal: Sir! To be very honest, I won't mince my words.**

Awareness پر ہماری کوتاہی رہی ہے، اس کی awareness کو صحیح طریقے سے spread کرنے میں ہم ناکام رہے ہیں اور اس طرح سے ہم اپنے لوگوں کو صحیح آگاہ نہیں کر سکے۔ کیونکہ ایک عجیب subject ہے اور لوگ اس سے کتراتے ہیں تو مجھے لگتا ہے، ہم نے ابھی aggressive campaign شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کا content تیار ہے، سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، digital media استعمال کرنے جا رہے ہیں جو پانچ سال کا پورا data ہے وہ MNA صاحبہ کو بھجوادوں گا۔ میرے پاس اس وقت موجود نہیں ہیں، اور ہو سکتا ہو آپ کے پاس بھی جمع کروادوں گا۔

### POINT OF ORDER

جناب ڈپٹی سپیکر: جناب محمود خان اچکزئی صاحب۔

قائد حزب اختلاف (جناب محمود خان اچکزئی): بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ شکریہ جناب سپیکر! یہ کیا ہو رہا ہے، اس اجلاس سے پہلے جناب ڈپٹی سپیکر! پتہ نہیں ہمارے الفاظ ناقص ہیں یا ہماری زبان میں کوئی لکنت ہے، ہماری بات آپ کو سمجھنی پڑتی ہے۔ بڑے احترام سے آپ سے عرض کیا تھا پچھلے اجلاس میں کہ مہربانی کریں عمران خان بیمار ہیں، اس سے ملاقات پر پابندی ہے، آپ سے انتہائی نرم الفاظ میں کہا تھا کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم اجلاس کا بائیکاٹ کریں گے۔ ہم بائیکاٹ پر تھے، پھر سرکاری مینجمنٹ کے لوگ آئے کہ چائے کا وفد آیا ہے کہ چائے ہمارا دوست ہے، مہربانی کر کے اس میں شامل ہو جائیں تو ہم آگئے۔

جناب سپیکر! مہنگائی آسمان تک پہنچ گئی ہے، آپ کو صرف شوکاژ نوٹس اور سوالات کی پڑی ہوئی ہے۔ خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں۔ جناب سپیکر! پاکستان ہمیں عزیز ہے، یہ پارلیمنٹ ہمیں عزیز ہے۔ لیکن جناب سپیکر! افسوس ہوتا ہے جو پارٹی یہ slogan لگاتی ہے کہ ووٹ کو

عزت دو، اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ووٹ کو ذلت دو، جو پارٹی روٹی، کپڑا، مکان کی بات کر رہی تھی جو کہتی تھی کہ ہم نے اس ملک کو آئین دیا ہے، اس آئین کے پر نچے اڑائے جا رہے ہیں، بغیر آئین کے جناب سپیکر! یہ ملک کیسے چلے گا، کون چلائے گا؟ خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں۔ بلوچستان کی میں نے بات کر دی، خیبر پختونخوا میں، لکی مروت میں آج دل کو دکھانے والی باتیں ہیں، بس ہم نے ٹھیکہ لیا۔ بسم اللہ پڑھ لو، ہم نے یہ پارلیمنٹ فاتحہ کے لیے بنائی ہے، ایک آدمی کا قتل انسانیت کا قتل ہے اور شہباز بھائی خوش ہیں، آپ خوش ہیں کہ ہماری بادشاہی ہے، اس ملک پر رحم کریں جناب سپیکر! مہربانی کر کے چھوڑیں ان شوکانوں کو، ہم بائیکاٹ پر تھے، شرافت کے دائرے میں انہوں نے مجبور کیا، ہم آکر بیٹھ گئے اور سنا۔ پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کا آئین سب سے مقدس اور ضروری وظیفہ ہے، یہ ساتھی بولیں گے بعض چیزوں پر پھر ہم بائیکاٹ کر کے نکل جائیں گے۔

**CALLING ATTENTION NOTICE REG: THE RECENT FIRE INCIDENT AT A CUSTOMS WAREHOUSE IN QUETTA, BALOCHISTAN, RESULTING IN DESTRUCTION AND DAMAGE OF VEHICLES, VALUABLE GOODS AND PROPERTIES**

جناب ڈپٹی سپیکر: جی 27 Item No. 27 عالیہ کامران صاحبہ۔

محترمہ عالیہ کامران: محترم وزیر برائے خزانہ محاصل کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والے فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلانے چاہتی ہوں جو کسٹم گودام کوئٹہ بلوچستان میں آتشزدگی کے حالیہ واقعے کے نتیجے میں گاڑیوں بیش قدر اشیاء اور املاک کی تباہی اور انہیں پہنچنے والے نقصان سے متعلق ہے۔

جناب ڈپٹی سپیکر: جناب سعد وسیم صاحب۔

**Parliamentary Secretary for Finance & Revenue (Mr. Saad Waseem):** Thank you very much Mr. Speaker. It is unfortunately a fact that a major fire incident took place on 10<sup>th</sup> of May, 2026. Keeping in view the magnitude of the loss and sensitivity of the matter, both internal department of FBR has constituted a committee and the Government of Balochistan has also constituted a JIT. The reports of both these committees are not yet finalized. Therefore, we don't have the numbers to tell the House, what actually the loss that occurred from that fire incident.

I humbly request the honourable Member and I will submit humbly to the Chair to please defer that Calling Attention for some other day, because once the reports could attain finality then the actual loss will definitely be shared with the House or as you guide, we will share with the Members. I thank you very much.

جناب ڈپٹی سپیکر: عالیہ کامران صاحبہ. briefly please.

محترمہ عالیہ کامران: منسٹر صاحب نے صحیح بتایا، ہمیشہ باقی رپورٹس کی طرح یہ بھی رپورٹ میرے خیال میں نہیں آئے گی۔ کیونکہ پاکستان میں دفاتر یا ان سے متعلق جو جگہیں ہیں، جب وہاں پر آتشزدگی کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی شہادت کو ضائع کرنے کی بظاہر وجہ معلوم ہوتی ہے اور اس میں بھی یقیناً گڑبڑ نظر آرہی ہے۔ سر! انہوں نے کہا کہ ابتدائی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی ہے۔ لیکن اگر یہ جب رپورٹ آئے تو اس کا timeframe ہونا چاہیے وہ رپورٹ ایوان کے سامنے پیش ہو اور یہ اس میں پتہ چل سکے کہ یہ مجرمانہ غفلت تھی، لاپرواہی تھی یا پھر یا قدرتی حادثہ تھا تو یہ رپورٹ جلد از جلد ایوان میں پیش ہو جانی چاہیے۔

جناب ڈپٹی سپیکر: جناب سعد وسیم۔

**Mr. Saad Waseem:** Once again thank you very much Mr. Speaker. Honourable Member has raised some apprehensions that are actually factual. I can't disagree with that. That is why I am requesting, once the reports will be finalized then I will be in better position to share those findings with the House and that would be quite appropriate.

جناب ڈپٹی سپیکر: رپورٹ آپ share کر لیجیے گا۔

**Mr. Saad Waseem:** Definitely Sir! I will get it done.

جناب ڈپٹی سپیکر: محمد عثمان بادینی صاحب to ask one question.

جناب محمد عثمان بادینی: شکر یہ سپیکر صاحب! یہ موصوف جواب تو دے نہیں پارہے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جب وہاں Customs Warehouse میں آگ لگی تھی۔ اس میں وہ تمام گاڑیاں، جن گاڑیوں کے اندر سامان تھا، جو ضبط ہوا تھا، وہ دوبارہ court سے release ہو گئیں۔ لیکن لوگوں کی گاڑی وہاں کھڑی تھیں اور وہ گاڑیاں جلی ہیں۔

آج ایک مہینہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ وہاں کے جو Goods Association والے ہیں، Customs Clearance والے ہیں ان سب نے اپنا data جمع کر کے دے دیا ہے۔ مہینہ گزر چکا ہے، ایک مہینے میں اب تک ان کو یہ numbers معلوم نہیں ہیں کہ کتنی گاڑیاں تھیں؟ کتنے اس میں water bowser تھے؟ کتنی اس میں LPG کی گاڑیاں تھیں؟

اور دوسری غفلت سب سے بڑی یہ ہے کہ جب LPG کی گاڑیوں میں گیس بھرا ہوا تھا، اس بھرے ہوئے گیس کی گاڑیوں کو انہوں نے Custom House کے اندر کیسے کھڑا کیا؟ اور جیسے ہی آگ جلتی ہے، اسگ جلنے کی بعد۔۔۔۔۔

جناب ڈپٹی سپیکر: شکر یہ۔

جناب محمد عثمان بادینی: نہیں، سپیکر صاحب۔

جناب ڈپٹی سپیکر: نہیں ایک سوال ہوتا ہے، تقریر تو نہیں ہوگی Calling Attention پہ پلیز۔ جی مائیک کھولیں، پلیز wind up کریں۔

جناب محمد عثمان بادینی: سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو LPG گاڑیاں وہاں پہ چلی ہیں، اس LPG گاڑی کے جو ڈرائیور حضرات تھے انہوں نے کہا ہمیں اجازت دیں ہم اپنی گاڑیاں یہاں سے دور لے جا کے کھڑی کرتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے اجازت نہیں دی۔ یہ کچھ ایسے سوال ہیں جو پھر۔۔۔

جناب ڈپٹی سپیکر: شکریہ۔ سعد و سیم صاب۔

جناب سعد و سیم: شکریہ جناب سپیکر! ایک دفعہ پھر honourable Members کے جو concerns ہیں۔ میں نے ان کے کسی بھی تحفظات سے انکار نہیں کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی points انہوں نے raise کیے ہیں اس کا جواب department کو find کرنا چاہیے۔

میں صرف یہ request کر رہا ہوں کہ سراسر inquiry کی جو findings ہیں وہ ابھی conclude نہیں ہوئیں۔ تو اگر یہ مجھے کہتے ہیں جو بھی ان کی apprehensions ہیں in shape of question, I am noting it اور یہ میں inquiry میں ضرور search it کرواؤں گا۔ مگر اب آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی چیز کا جواب نہیں دے رہا، FBR کام نہیں کر رہا۔

دیکھیں the point he is making now کہ ڈرائیور کہہ رہا تھا کہ LPG کی گاڑی میں اپنے نکال سکتا ہوں here is a question for me, whether the product is essential or a human life is essential زیادہ قیمتی کون ہے؟ ضرور ٹھیک ہے loss ہوئے ہیں مگر how could I allow someone to risk his life and to get his product out of that, from that fire.

میری یہ request ہے کہ تمام honourable Members کے concerns بالکل valid ہیں، I am not disagreeing with that, but my submission is just to defer that Calling Attention for some other day. Once I will having that report findings, then I will be in better position to respond to the House. Thank you.

جناب ڈپٹی سپیکر: ٹھیک ہے۔ شکریہ۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ایک سوال کریں۔

(مداخلت)

جناب ڈپٹی سپیکر: بس ٹھیک۔ آپ کو رپورٹ ملے گی۔ اب شور نہ کریں، آپ senior parliamentarian ہیں۔ شاہدہ بیگم صاحبہ ایک سوال کریں۔

محترمہ شاہدہ بیگم: شکریہ جناب ڈپٹی سپیکر صاحب۔ دیکھیں Calling Attention تو اسی لیے ہم دیتے ہیں کہ ہمیں Floor پہ حقیقت بتائی جائے۔ لیکن یہاں پہ چونکہ جو honourable Member ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی وہ initial report بھی نہیں ہے کجا کجا کہ ایک final report ہمارے سامنے ہو۔ ان کے جوابات سے تو یہی لگ رہا ہے وہ ٹائم لے رہے ہیں۔ It means کہ ہمارے پاس کوئی سچائی نہیں آسکتی تو پھر آپ اس کو defer کریں۔ لیکن with reference to the time frame کہ ہمیں کوئی time frame تو بتادیں ان کی طرف سے۔

جناب ڈپٹی سپیکر: دو سیم صاحب پلیزی یہ report کی time frame بتائیں۔

جناب سعد و سیم: شکریہ جناب سپیکر۔ جناب سپیکر! میں کوشش کروں گا کہ ان دونوں inquiries کی JIT by including reports within the Provincial Government and by the internal inquiry of FBR findings I will share that each and every Member who has that seven days Calling Attention.

جناب ڈپٹی سپیکر: ٹھیک ہے شکریہ۔ جی نعیمہ کشور صاحبہ ایک سوال کریں۔

محترمہ نعیمہ کشور خان: شکریہ جناب سپیکر صاحب۔ جناب سپیکر صاحب! جب Parliamentary Secretary خود ہی agree کر رہے ہیں اس سے کہ یا تو defer کر دیں یا پھر کمیٹی کو بھیج دیں۔ تو اگر اس کو defer کرتے ہیں یا پھر کمیٹی کو بھیجتے ہیں یا اس کے لیے پھر Special Committee تو خیر مشکل ہے۔ لیکن۔۔۔

جناب ڈپٹی سپیکر: نہیں، Special Committee کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پہ ایک ہفتے کے اندر report آرہی ہے، ساری کہانی آپ کے سامنے آجائے گی۔ وہ share کر لیں گے۔

محترمہ نعیمہ کشور خان: تو پھر defer کر دیں یا پھر کمیٹی کو بھیج دیں، جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں۔ کیونکہ Parliamentary Secretary تو agree ہیں کہ ہاں اس کو defer کر دیں۔

### POINTS OF ORDER

جناب ڈپٹی سپیکر: ٹھیک ہے شکریہ۔ جی Barrister Gohar Sahib on Calling Attention is over.

Point of Order.

جناب گوہر علی خان: شکریہ جناب سپیکر۔ 20 مرتبہ request کرنے کے بعد اور گھنٹہ کے انتظار کے بعد آپ اب مجھے Floor دے

رہے ہیں۔

جناب ڈپٹی سپیکر: نہیں بولنا ہے کیا؟

جناب گوہر علی خان: بڑے افسوس کی بات ہے۔

جناب ڈپٹی سپیکر: بیرسٹر صاحب نہیں بولنا ہے کیا؟

جناب گوہر علی خان: نہیں، میں نے بولنا ہے، it is my right یہ میرا right ہے۔

جناب ڈپٹی سپیکر: جی۔

جناب گوہر علی خان: جناب سپیکر! ہمارے پاس عوام کا mandate ہے اور ان کے rights کے لیے بول رہے ہیں۔

جناب سپیکر! اس Chair کو ہم ہمیشہ چاہ رہے ہیں کہ مضبوط ہو، independent ہو اور ہماری آواز سب سے important

ہے۔ آپ کو اس لیے اچکڑی صاحب نے صحیح فرمایا کہ شاید ہماری زبانوں میں لکنت ہے، ہماری آواز کمزور ہے۔ پھر فیصلہ کل ہم کریں گے کہ آپ کے ساتھ یہاں بیٹھے کا کوئی فائدہ ہے بھی کہ نہیں۔ ہماری اپنی اسمبلی جس طرح آپ لگاتے تھے اس سے بڑھ کر اسمبلی ہم لگائیں گے، جن کے پاس تین کروڑ عوام کا ووٹ ہے۔ ان کے پاس کیا تھے؟ ان کے پاس تو 17 سیٹیں تھیں، 17 سیٹوں والے آکے بیٹھے ہیں۔

جناب سپیکر! Last time! یہ بھی میں نے بلکہ ہم نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ سسٹم میں چلتے ہوئے تبدیلی لے کے آئیں۔ لیکن

unfortunately شاید اچکڑی صاحب صحیح فرما رہے ہیں۔ لکنت ہے جو ختم نہیں ہو رہی۔

جناب سپیکر! Last time! یہ بھی ہم نے یہ بڑا categorically کہا تھا کہ اس وقت اس ملک کا عظیم لیڈر اگر ہے تو وہ عمران احمد خان

نیازی ہے۔ آج تک 34 ہفتوں سے اس سے ملاقات یہ پابندی ہے، 34 ہفتوں سے ہم نہیں ملے جناب سپیکر۔ میں آپ سے Ruling مانگوں گا۔ یہ عوام یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ اپوزیشن یہ آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آئین، قانون کے مطابق اس کا right ہے اس کے ساتھ ڈاکٹروں کا ملنا، فیملی کا ملنا، لیڈران کا ملنا، عدالتوں کے orders کے مطابق ہے۔ ہم نے last time بھی آپ کو کہا اس مرتبہ یہ اپوزیشن آپ سے unanimously جو تین کروڑ عوام کو represent کرتی ہے، چھ کروڑ ووٹوں میں سے، تین کروڑ ووٹ لے کے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ اپوزیشن آپ سے unanimously مطالبہ کرتی ہیں کہ آپ Ruling دیں کہ عمران خان کے ساتھ فوراً ہماری ملاقات ہو۔ پھر ہم اس سے instructions لے لیں، اس بجٹ سے related، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ یہ ہمارا unanimous اور عوام کا مطالبہ ہے جناب سپیکر عوام کے مطالبے پہ آپ Ruling دیں، آپ rules کے مطابق پابند ہیں اس پہ Ruling دینا۔

جناب سپیکر صاحب! ساتھ ہی میں یہ کہہ دوں اچکڑی صاحب نے ذکر کیا، جناب سپیکر! ووٹ جمہوریت کی اکائی ہے، ووٹ کی بنیاد پہ لوگ

منتخب ہو کے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، عوامی نمائندے کہلاتے ہیں، وہ بھاگ دوڑ جب سنبھالتے ہیں اپنے عوام کے لیے۔ تو وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نمائندگان ہوتے ہیں۔

جناب سپیکر! گلگت بلتستان کی 24 سیٹوں میں سے ہم 23 پہ لڑ رہے تھے۔ 15 پہ ہم نے واضح برتری حاصل کی ہے۔ ہمیں تین کے فارم 47 دیے گئے، ہم اس الیکشن کو reject کرتے ہیں اور اس دھاندلی کی مذمت کرتے ہیں۔ GB is the most critical part of Pakistan میں دھاندلی زدہ حکومت کو بٹھانا، دھاندلی زدہ لوگوں کو وہاں رکھنا، یہ جمہوریت کی روح کے منافی ہے۔ خدا را یہ نقص ہمیشہ کے لیے ختم کرو۔

اس لیے یہ اپوزیشن پر زور مطالبہ کرتی ہے جناب سپیکر! آپ اس پہ Ruling دیں، لاء منسٹر صاحب موجود ہیں وہ اس پہ guidance دیں۔ ہم unanimously مطالبہ کرتے ہیں کہ آئندہ پاکستان میں کوئی بھی الیکشن نہ ہو اگر ہو تو وہ Electronic Voting Machine کے ذریعے سے ہوتا کہ عوام اپنے نمائندے صحیح طور پہ چن سکے اور اس میں دھاندلی نہ ہو۔

ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے یہاں بھی الیکشن کمشنر کی مدت کب کی ختم ہوئی ہے، جنوری 2025 میں ختم ہوئی ہے۔ دو ممبران کی بھی مدت ختم ہوئی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے کبھی letter نہیں لکھا موجودہ Leader of the Opposition کو کہ ہمارے ساتھ کون سے ممبران منتخب کرے۔

جناب سپیکر! ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سسٹم کو reform کریں۔ یہ سسٹم جس طریقے سے چل رہا ہے یہ دھاندلی زدہ ہے، اس کو ہم ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ unanimous مطالبہ ہے اس اپوزیشن کا، یہ تین کروڑ عوام کا جناب سپیکر۔ میں جناب سپیکر! آزاد کشمیر کا یہ کہتا ہوں، آزاد کشمیر ہمارا شہ رگ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف تشدد پہ belief نہیں کرتی۔ قانون کے اپنے ہاتھوں پہ belief نہیں کرتی۔

جناب سپیکر! پہلے بھی کبھی ہوا ہے، اس کے کیسے consequences ہوتے ہیں؟ ایک انسان کی جان پہ خدا نے کہا کہ انسانیت کی جان چلی جاتی ہے۔ ہم سب کو کہیں گے حکومت سے بھی مطالبہ کریں گے کہ جو بھی مسائل ہیں، ہم عوامی مطالبات کو support کرتے ہیں 12 سیٹوں پہ ہمارا موقف رہا ہے کہ ان کا آئینی مطالبہ ہے۔ جناب سپیکر! افہام و تفہیم سے کام لیں، زور زبردستی سے کام نہ لیں۔ میں ایک آخری point کی طرف توجہ کراؤں گا۔ اس مرتبہ حکومت پانچواں بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے بعد پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک حکومت پانچواں بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے جو یہ حکومت ہے، لیکن یہ ایسی نالائق اور ایسی فیمل حکومت ہے کہ آج ان کو اپنے strategic defence کی needs کے لیے، ڈیفنس بجٹ پورا کرنے کے لیے بھی پورے پیسے نہیں ہیں۔ Strategic needs جتنی بھی ہیں، ہماری افواج ہر جگہ پر قربانیاں دے رہی ہے، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کی جو strategic ضروریات ہیں وہ ہر صورت پوری ہونی چاہئیں۔ 1.7 ٹریلین نہیں، ان کی ضروریات اگر 3 ٹریلین یا 2 ٹریلین کی ہیں تو وہ بھی پوری ہونی چاہئیں، لیکن یہ ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے، آپ صوبوں کے کندھوں پہ نہیں ڈال سکتے۔ چار سال کے بعد آپ کی ترقی یہاں تک آئی، آپ ایف بی آر (FBR) کو reform نہیں کر سکے، آپ روپے کو devalue کرتے رہے، آپ

غیر ضروری طور پر loan لیتے رہے، آپ tax collection نہیں کر سکتے، آپ اپنے taxes کو raise نہیں کر سکتے، آپ اس structure میں reform نہیں لاسکتے جیسے آپ کا retail, real estate and agriculture cover ہو۔

جناب سپیکر! اسی طریقے سے آپ اپنی collection نہ کر سکتے، اب آپ transfer کر رہے ہیں، وفاق صوبوں سے shoulder کر رہا ہے، صوبوں سے share لینا ایک آئینی نکتہ ہے۔ این ایف سی (NFC) کے مطابق، اٹھارویں ترمیم کے بعد آپ اس میں کمی نہیں کر سکتے۔

جناب سپیکر! میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے پاس ابھی بھی وقت ہے، یہ غیر آئینی مطالبہ ہوگا on behalf of the Federal Government کہ وہ صوبائی حکومتوں سے کہے کہ میں آپ کا share freeze کرتا ہوں اور پھر اُس میں ہمیں دیں۔ ہم اس کو حکومت کی ناکامی سمجھتے ہیں،

جناب ڈپٹی سپیکر: یہ بجٹ میں speech کیجیے گا۔

جناب گوہر علی خان: یہ پانچ سال کے بعد اس پر آگئے ہیں ہم اس کو ناکامی سمجھتے ہیں، شکر یہ۔

جناب ڈپٹی سپیکر: شکر یہ۔ اعظم تارڑ صاحب، میں امجد علی خان صاحب کو بھی ٹائم دینا چاہ رہا ہوں اور اذان بھی ہونے والی ہے۔

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: سر! اس میں ایک دو ایسی چیزیں تھیں جو وہاں سے بات کی گئی ہے، سب سے پہلے اپوزیشن لیڈر نے کشمیر کی بات کی۔ کشمیر پر آج سینیٹ میں بھی سارا inform کیا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب اس کمیٹی کو خود chair کرتے ہیں اور وہ negotiations کا حصہ رہے ہیں۔ کشمیر ہماری شہ رگ ہے اور کشمیر ہمیں بہت عزیز ہے۔ اسی وجہ سے سارے پاکستان سے ہٹ کے، کشمیر کے لیے ان کے عوامی مطالبے پر وزیر اعظم پاکستان نے پچھلے سال ایک کمیٹی تشکیل دی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ ہمیں بجلی اور آٹے کے لیے سیشنل پیکیج دیا جائے۔ 38 مطالبات پیش کیے گئے اور ان 38 میں سے 35 مطالبات کمیٹی سے negotiate کرنے کے بعد مان لیے گئے۔ کشمیر میں بجلی 3 روپے یونٹ میں فراہم کی جاتی ہے، کشمیر میں 40 کلو گرام آٹے کے تھیلے کی قیمت 2 ہزار روپے ہے اور اس کی ساری سبسڈی وفاقی حکومت ادا کر رہی ہے۔ تو وہاں پر کون سی ایسی زیادتی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ایک کمیٹی بنی اور اُس کمیٹی نے یہ مدعا اٹھالیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ 12 سیٹیں ختم کر دی جائیں جو کہ مہاجرین کی سیٹیں ہیں، ان کی سیٹیں ہیں جن کی وجہ سے کشمیر کا زہر ہے۔ وادی کے اور جموں کے وہ مہاجرین جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں ہجرت کی، جنہوں نے اپنی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں کٹوائیں، جنہوں نے شہادتیں دیں، جنہوں نے اپنے بچے کٹوائے اور وہ ملک کے کونے کونے میں آباد ہوئے، ان کو زمینیں الاٹ ہوئیں، ان کا یہ قصور ہے کہ کشمیر میں ان کے لیے رہنے کی جگہ نہیں تھی اور پاکستان میں انہوں نے اپنی سکونت اختیار کی؟ یہ کب سے ہے؟ یہ کشمیر کے نظریے سے جڑی ہوئی سیٹیں ہیں۔ اس کے اوپر بھی کمیٹی نے پورے تدبر کے ساتھ ان engage کیا، یہ سارے points ان کے سامنے رکھے۔ طے یہ پایا کہ یہ معاملہ APC میں لے جایا جائے، APC کروائی گئی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی اگر پی ٹی آئی کے رہنما، جو آج یہاں پہ تقریر کر رہے ہیں وہ اُس APC میں شرکت کرتے اور اس معاملے کے حل کے لیے وہاں پہ تجاویز دیتے۔ اگر سیاست دان اکٹھے نہیں بیٹھیں گے، اگر

آپ ملنے پہ تیار نہیں ہیں، تو پھر یہی ہوتا رہے گا جو ہوتا رہا ہے؛ یہ پچھلے دور میں بھی ہوا، آج بھی یہ ہوا اور کل بھی یہی ہوگا۔ میرے منہ میں خاک۔ لیکن خدا ایسے sensitive issues پر بایکاٹ کر دینا کہ ہم نہیں جاتے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں بات کریں گے، آپ لوگ نہیں گئے۔

اس کے بعد APC میں یہ طے ہوا کہ یہ معاملہ اسمبلی میں جائے، جو ہماری APC کی Resolution ہے اگر اسمبلی اُسے approve کرتی ہے تو ٹھیک ہے۔ اسمبلی میں گئے، اسمبلی نے اُسے approve کیا اور وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ صدر آزاد جموں و کشمیر ان سیٹوں کے مستقبل کے بارے میں ایک ریفرنس سپریم کورٹ آزاد جموں کشمیر میں بھیجیں گے۔ یہ question frame ہوا کہ آیا سیٹیں ختم کرنا عوامی مطالبے پہ ہونا ہے یا آئینی ترمیم کے ذریعے ہونا ہے؟ وہاں پر سوال یہ اٹھایا گیا کہ آیا حکومت کے یا اسمبلی کے آخری چھ دنوں میں اتنی اہم آئینی ترمیم ہونی چاہیے جو کہ کشمیر کے نظریے سے جڑی ہوئی ہے، یا یہ نئی آنے والی اسمبلی کا مینڈیٹ ہونا چاہیے کہ لوگ اس مطالبے کو سامنے رکھ کر ووٹ دیں کہ یہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ سپریم کورٹ نے اس ریفرنس پہ فیصلہ صادر فرمایا اور انہوں نے کہا کہ آئین میں تبدیلی کا prerogative پارلیمنٹ کا ہے اور منتخب پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے۔ اب اگر بارڈر پار سے تاریں ہلیں اور وہاں سے instructions آئیں، یہ چیزیں تین دن سے میڈیا پہ بھی چیزیں گردش کر رہی ہیں، وزیر مملکت برائے داخلہ نے وہ آڈیو بھی آپ کے سامنے رکھ دیں کہ وہ کون سے عناصر ہیں اور وہ کہاں سے جڑے ہوئے ہیں، انہیں کہاں سے instructions آ رہی ہیں اور وہ کس طرح سے کشمیر کا زون نقصان پہنچانے کے لیے حرکت کر رہے ہیں۔ تو خدا را، اس پہ ہمیں مل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، اسے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہ کریں۔ ساری قوم اس پہ متحد اور متفق ہے کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام کے لیے حکومت پاکستان کے جو recent اقدامات ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔

آپ نے کہا کہ strategic needs کے لیے آپ صوبوں سے کیوں یہ لے رہے ہیں؟ میں لمبی بحث میں نہیں جاتا، اس پہ بھی باہمی مشاورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، پچھلے سال 10 مئی کو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص کرم نوازی سے عزت سے نوازا اور جس طرح ہم نے بھارت کے حملوں کا جواب دیا، ہم لوگ پوری پارلیمنٹ کے بھی مشکور ہیں کہ آپ عوام کے منتخب نمائندے ہیں، پوری پارلیمنٹ مل کر بھارت کو جواب دینے کے لیے ایک آواز ہو کر افواج پاکستان کی حمایت میں بولے، Resolution بھی پاس کیا اور اس فتح کا جشن بھی ہم نے مل کے منایا۔ دن بہ دن different needs ہیں اور اس modern زمانے میں ہم نے دیکھ لیا کہ مشرق وسطیٰ ایران اور باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک یہ ایٹو تھا، کچھ اور strategic points تھے۔ میں آپ کے قائدین کی، چنگیز صاحب، آپ تو میرے وکیل بھائی ہیں، آپ تو عدالت میں mind کر جاتے ہیں اگر بحث کرتے ہوئے بندہ منہ پر بول پڑے تو میں آپ لوگوں کو بڑے ادب سے سنتا ہوں، مہربانی کر دیں، کچھ نہیں ہوتا۔ میرا دوست بھی ہے۔

**Mr. Deputy Speaker: No cross talk. Please address the Chair.**

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: تو اس میں بھی ہم نے صوبوں سے، اکٹھے بیٹھ کے آرٹیکل 164 جسے بیرسٹر گوہر صاحب مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، 164 کی ایک dispensation ہے، اُس کے تحت یہ voluntarily contributions ہیں جو کہ مرکز بھی ہمیشہ صوبوں کیلئے کرتا ہے، کچھ special needs کے لیے، سپیشل حالات میں اگر ایسی ضرورت پیش آئے تو ہم سب پاکستانی ہیں، یہ چار مختلف ملک تو نہیں ہیں کہ ہم نے خدا نخواستہ پیسے ہمسائے سے مانگ لیے ہیں یا کسی دوسرے ملک سے مانگ لیے ہیں کہ ہماری مدد کرو۔ یہ پاکستان کا پیسہ ہے، پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے جو ہم ایک فارمولے کے تحت تقسیم کرتے ہیں۔ ایک دفعہ تقسیم ہو گیا، اس کے بعد ایک بھائی نے کہا کہ بڑے بھائی کو ضرورت ہے، آپ مجھ سے لے لیں، دوسرے نے کہا آپ مجھ سے لے لیں۔ تو اس میں کوئی گناہ والی بات تو نہیں ہے یا 164 آئین میں سے delete کر دیں۔ اور یہ کہنا کہ کیوں ہو رہا ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات آج کے نہیں، کب کے ہیں، آپ بھی یہ کہتے تھے کہ پیسہ نہیں ہے اور آپ تو default کے دہانے پہ کھڑا کر کے، کالے کنویں کے بالکل کنارے پہ کھڑا کر کے، آپ ہاتھ مل کے چلے گئے کہ سنبھالو۔ آپ نے تو آئی ایم ایف (IMF) کو پوری طرح سے، وہ کہتے ہیں کہ بارودی سرنگیں لگا کر، آخری تین مہینے میں وہ actions کیے یہ جانتے ہوئے کہ No Confidence کا ایک process شروع ہو چکا ہے، ہم تو ڈوبیں گے اور ملک کو بھی ڈبو کے جائیں گے۔ ان باتوں کو نہ چھیڑیں، یہ قصہ پارینہ ہے، انہیں بند رہنے دیں، لیکن یہ ساری جو dispensation ہے یہ within the constitutional framework ہو رہی ہیں۔ آپ نے GB کے الیکشن کی بات کی۔ GB کے الیکشن تو سارا دن ٹیلی ویژن پر telecast ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آپ نے کہا کہ جی وہاں پہ اتنی سیٹیں ہو گئیں ہیں۔ بھئی کچھ لکھ کر سمجھائیں تو سہی کہ کہاں پہ کتنے forms آپ کے پاس آئے، کتنے ووٹ آئے، اور آپ کے ساتھ کہاں کہاں پہ زیادتی ہوئی ہے۔ آپ نے 17 سیٹوں کی بات کر دی۔ جی، آپ نے ہر حلقے میں petitions file کی ہیں، مختلف صوبوں میں petitions file کی ہیں۔ چھبیسویں ترمیم آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد عدلیہ کا ماحول بدل گیا۔ چھبیسویں ترمیم سے پہلے بھی فیصلے آپ کے خلاف آئے، چھبیسویں، ستائیسویں ترمیم کے بعد بھی آپ کے خلاف آئے۔ جہاں پہ بنتا تھا case، آپ کو ملا۔

اگلے روز اخباروں میں شہ سرخیاں تھیں۔ کسی نے research کر کے لگایا ہوا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ سارے پاکستان کے ووٹ ہم نے لیے اور سارے پاکستان نے ہمیں ہی منتخب کیا، اور یہ ساری جماعتیں پہ نہیں کہاں تھیں، یہ خلا میں تھیں۔ تو بھائی، وہ جو سارے statistics ہیں، جو سارے مقدمات ہیں جن میں وہ سارے کھولے گئے ہیں مقدمے، ایک ایک کر کے مختلف۔ کوئی ایک جج، دو جج، آپ کہتے ہیں جی judges compromise ہو جاتے ہیں۔ بھائی، سارا پاکستان ہی آپ نے compromise کیا ہوا ہے۔ تو خدا ار ایسے نہ کریں۔

آپ نے کہا کہ Election Commission کا time پورا ہو چکا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دو تین Human Rights کے Commissions بھی ہیں، ان کا بھی time پورا ہو چکا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بار بار آپ سے یہ گزارش کی، سیاسی امور کے وہ ہمارے Advisor ہیں، کہ آئیں بیٹھیں بات کریں۔ وزیر اعظم نے یہاں پہ آپ کو congratulate بھی کیا، اور انہوں نے بھی offer

کی کہ آپ نہیں بیٹھیں۔ جہاں آپ ساتھ وزیر اعظم کے بیٹھنے پہ تیار نہیں ہیں، آپ ان کی طرف جا کے چائے پیئے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ قائد ایوان ہے اس ہاؤس کا، آپ حصہ ہیں اس پورے system کا۔ قائد ایوان اور آپ بیٹھیں، خوش آمدید، سر آنکھوں پہ۔ بیٹھ کے وہاں پہ جو process ہے Constitution میں، اور جو relevant laws allow کرتے ہیں، وہ اس کے مطابق کریں۔

میں آج پھر reiterate کرتا ہوں، وزیر اعظم پاکستان، قائد ایوان کے behalf پہ، اپنی team کے، حکومت کے behalf پہ، کہ آپ آئیں، بسم اللہ، آپ بیٹھیں، آپ نام لے کے آئیں۔ جو process ہے اسے kick-in کریں۔ آپ کہتے ہیں ہم ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا ایک مطالبہ ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائیں، ہم بجٹ کی اجازت لینا چاہتے ہیں، بجٹ پہ مشاورت کرنا چاہتے ہیں۔ گوہر صاحب، آپ تو خود بڑے مجھے ہوئے وکیل ہیں۔ یہ فیصلہ آپ ہی نے لیا تھا Supreme Court سے، آپ ہی کے لوگ تھے۔

(اذان مغرب)

جناب ڈپٹی سپیکر: جی اعظم نذیر تارڑ صاحب۔

سینیٹر اعظم نذیر تارڑ: میں بس conclude کروں گا۔ ذوالفقار بھٹہ کیس میں آپ نے مٹھائیاں تقسیم کی تھیں، جب Supreme Court of Pakistan نے کہا کہ یہ شخص کسی قسم کے سیاسی functions discharge نہیں کر سکتا، وہ Parliament کے فیصلے نہیں کر سکتا، وہ ٹکٹیں جاری نہیں کر سکتا، وہ پارٹی کا سربراہ نہیں رہ سکتا، وہ political directions نہیں دے سکتا۔

اس وقت تو جب میاں نواز شریف کے بارے میں یہ فیصلہ آیا، آپ کے دوستوں نے مٹھائیاں بانٹیں، TV کے shows میں بیٹھ کے آپ نے کہا کہ آج انصاف کا بول بالا ہوا ہے، اور ایک جو convicted شخص ہے، اس کے بارے میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ Supreme Court کا فیصلہ ہے، ذوالفقار بھٹہ کیس میں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے۔

ہم تو تب بھی روتے تھے، سر میں عرض کر رہا ہوں۔ جی، پہلے Supreme Court نے disqualify کیا، conviction نہیں۔ سر، میں نہیں کر رہا۔ تو میری عرض یہ ہے کہ یہ قصہ پارینہ ہے، ان کو چھوڑیں۔ آپ نے آج کہا کہ آپ اس process کو شروع کریں۔ بجٹ کے اوپر briefing کے لیے ہم حاضر ہیں۔ آپ کی pre-Budget briefing کے لیے بھی ہم حاضر ہیں۔ آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ۔ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت ہے کہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب دینے چاہئیں۔

Prime Minister نے Floor of the House پہ leader of the opposition کو offer کی ہے، Opposition کو۔ میں پھر کہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ جو appointments کا process شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ آئیں۔ آپ

کو چائے بھی پلائیں گے، آپ سے بات بھی کریں گے۔ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، ہم اس سے روگردانی کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن ماحول تو بنائیں۔ اگر ہم نے کہنا ہے کہ میں مانتا نہیں ہوں، میں جانتا نہیں ہوں، میں پہچانتا نہیں ہوں، تو پھر یہی رہے گا۔ بہت شکر یہ۔

جناب ڈپٹی سپیکر: ڈاکٹر امجد علی خان صاحب، briefly کیجیے گا۔ میں نے آپ کو promise کیا تھا سپیکر چیمر میں، اس کے بعد آپ کو دے رہا ہوں آغا صاحب، دو منٹ کے لیے۔

جناب امجد علی خان: شکر یہ جناب Deputy Speaker صاحب۔ بہت اہم بات میں نے کرنی ہے کہ آج سے تین دن پہلے سوات میں ایک واقعہ ہوا تھا دہشت گردی کا۔ تقریباً سینتالیس لوگوں نے وہاں پر ambush کیا ایک transporters کے president پر۔ اس میں تین لوگ شہید ہو گئے، اس سے پہلے اس خاندان سے چودہ شہادتیں ہو چکی ہیں۔ Deputy Speaker، تین ہفتے پہلے exactly اس طرح کا واقعہ اس گاؤں میں رونما ہوا، جس میں جس بندے پہ حملہ ہوا، اس کے گھر سے اٹھارہ شہیدوں کی لاشیں already اٹھ چکی تھیں۔ سپیکر صاحب! یہ تسلسل ہے دو ہزار پچیس کے اس فیصلے کا جو افغانستان میں انہوں نے معاہدہ کیا۔ انہوں نے دہشت گردوں کو resettlement کے لیے فیصلہ واپس لیا۔ اس وقت بھی ہم نے چاہا تھا کہ Floor of the House پر ہم اس پہ بات کریں۔ Floor of the House پہ اس فیصلے کو ہم debate کرتے تو آج یہ repercussions نہ ہوتیں۔ لیکن unfortunately جب ہم قوم کے بارے میں بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں، تو پھر ان کی repercussions ایسی ہی نکلتی ہیں کہ ان کے نقصان کا سارا المیہ قوم پہ ہی پھر گرتا ہے۔

اب جناب ڈپٹی سپیکر صاحب! یہ موقع ہے۔ اگر آپ یا حکومت سمجھتی ہے کہ یہ صرف خیبر پختونخوا کا مسئلہ ہے، تو یہ صرف خیبر پختونخوا کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے وجود اور سالمیت کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان میں اتفاق اور اتحاد کا مسئلہ ہے۔ اگر خیبر پختونخوا یا بلوچستان کے لوگ نہیں رہیں گے، وہ جو شاعر فرماتے ہیں:

جو ہم نہ ہوں تو زمانے کی سانس رک جائے

قتیل وقت کے سینے میں ہم دھڑکتے ہیں

تو خدا را آپ اس طرح کریں کہ اس پہ بحث کریں۔ National Action Plan جو بنا تھا 2014 میں، اسی کو base بنا کے کہ اس پہ کتنا عمل درآمد ہوا اور اس پہ کتنا عمل ہمیں کرنا چاہیے، تاکہ law and order کا جو situation اس ملک میں بنی ہوئی ہے، اس کا ازالہ ہو۔

جناب ڈپٹی سپیکر: شکر یہ، آغا فوج اللہ صاحب، دو منٹ کے لیے please۔

سید فوج اللہ: بات یہ ہے کہ میری political جماعت کے اوپر اتنی، Leader of Opposition اور گوہر صاحب نے بھی بات کی۔ کیوں؟ میں الزام نہیں لگاؤں گا، بلکہ facts کے اوپر بات کروں گا۔ جو بات ہوگی وہی بتاؤں گا۔ آج PTI جب الیکشن ہار جاتی ہے گلگت بلتستان میں، تو ان کو پھر دھاندلی کا شور یاد آ جاتا ہے۔

جناب! میں یاد کرواتا ہوں، سیالکوٹ میں ڈسکہ میں الیکشن ہوتا ہے، جب ان کی پارٹی کی حکومت تھی، تو Supreme Court of Pakistan نے کہا کہ یہ دھاندلی ہوئی۔ جو دھند آئی تھی ناں election کے دوران، وہ دھند۔ پھر اس کے بعد دوبارہ کراچی میں election ہوتا ہے۔ اسلم خان ان کے MNA تھے۔ Election Commission کہتا ہے کہ کراچی سے اسلام آباد جب جاتے ہوئے result change ہوا ہے، تو یہ آپ کا track record ہے۔ نہیں تو قاسم سوری صاحب اپنا پورا tenure stay اپنی رہے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ بات کی، کہ جناب ہم نے اپنے leader کو رہا کرانا ہے۔ رہائی چھوڑیں، ابھی آپ ملاقاتوں پہ منتیں کر رہے ہیں۔ آپ کی تو political organization weak ہے، آپ الیکشن کیا جیتیں گے، جب آپ اپنے لیڈر کی ملاقات کے لیے منتیں کر رہے ہیں؟ نکالیں دو لاکھ بندہ، تو میں دیکھتا ہوں کہ کیسے آپ کی ملاقاتیں نہیں ہوتیں۔ یہ کہیں کہ عوام نے آپ کو reject کیا ہے۔

آپ یہاں پر بیٹھ کر صرف اڈیالہ جیل، اڈیالہ جیل۔ عوام کی فکر آپ کو ہے ہی نہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم shadow Budget لے کر آئیں گے، کہ حکومت کو بتائیں کہ بجٹ ہوتا کیسے ہے۔ آپ ایک طرف سے پوری چیچہ گیری کر رہے ہیں کہ دے فنڈ ان کو۔ بھائی، ہم دے رہے ہیں۔ آپ اس کو چھوڑیں، حکومت ہمیں کرنا نہ سکھائیں۔

لیکن جب آپ یہاں بیٹھ کر یہ بات کریں گے کہ جس الیکشن کو ہمارے Pakistan People's Party کے جیالوں نے گھر گھر جا کے لوگوں کو convince کر کے ایک واضح اکثریت لے کے آئے ہیں، اور اس میں بھی آج آپ کو برا لگ رہا ہے، تو معذرت کے ساتھ Pakistan People's Party کا ہر دور کر، ہر جیالا، اگر اس کی قیادت جیل میں ہوتی تو لگ پتا جاتا کہ ہوتا کیا ہے۔ آپ خود کام کے ہو نہیں، اور الزام دوسروں پر لگاتے ہو۔ ہمت کرو اپنے Chairman کو باہر بھی نکالو اور ملاقات بھی کرو۔ تم سے ہوتا تو کچھ نہیں ہے۔

جناب ڈپٹی سپیکر: بس mike کھولیں، آخری بات کریں۔

جناب سید رفیع اللہ: Pakistan People's Party والی مثال یہ ہے،

(نہ چھیڑ ملنگاں نوں پڑ جائیگا ٹنگاں نوں)

حکومت کیساتھ لگے رہو، ہماری طرف مت آؤ۔

جناب ڈپٹی سپیکر: شکر یہ۔ نور عالم خان صاحب on Point of Order۔

جناب نور عالم خان: شکر یہ جناب سپیکر۔ یہاں یہ غیر ضروری باتیں ہو رہی ہیں۔ کل حسن خیل پشاور میں FC 11 کے جوان شہید ہوئے ہیں اور سات کو انہوں نے اغوا کیا ہے۔ انکو یہ فکر نہیں ہے صوبائی حکومت انکی ہے میرے یہ پیچھے یہ جو وہ کر رہا ہے خدار آپ اس خیر پختونخوا کے لوگوں اور پاکستان کیلئے سوچو، وہاں پہ Law and Order situation، ابتر ہے اور دہشت گردی ہو رہی ہے۔ یہ چیخیں مار رہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، Drone attack، دہشت گرد یہ ہوتا ہے، کوئی عام civilian پہ نہیں ہوتا، یہ حیران کن بات ہے۔

یہاں پہ سپیکر صاحب! مہربانی فرما کر اگر یہ صاحب خاموش نہیں ہوں گے تو آپ لوگ بات کیسے کریں گے، میں بھی پھر بات ایسے ہی کروں گا۔ یہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے ہمارے صوبے میں سر! سپیکر صاحب! ان صاحب کو جو کرنا ہے وہ کر لیں۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پشاور میں جو کل شہید ہوئے ہیں۔ یہ دہشت گردوں کے وہ ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے 40 ہزار لوگوں کو لایا ہے اور کوئی نہیں لایا، آپ لوگ لائے ہیں۔ یہ کس کو آپ بتانا چاہتے ہو؟

میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یار میرے بھائی، سرحد پر لوگ شہید ہو رہے ہیں، تم لوگ اور ہم حلقوں میں جا نہیں سکتے، اور تم یہ باتیں کر رہے ہو۔ یہ افسوس کی بات ہے۔

جناب ڈپٹی سپیکر: اس شور میں آپ نہیں جانا چاہتے۔ سر! دیکھیں، آپ کا پوائنٹ آگیا ہے۔ بس، ابھی نماز کا بھی ٹائم ہے۔ Mike کھولیں، آخری بات کریں۔

جناب نور عالم خان: اور پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور یہ اگر ان سازشی عناصر کے دوست بن رہے ہیں تو بننے دیں۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ دوست ہیں، کیونکہ یہ وہاں پہ میں۔

جناب ڈپٹی سپیکر: شکریہ، شکریہ، شکریہ۔ بس، آپ کا پوائنٹ آگیا۔

**Mr. Deputy Speaker:** The House is adjourned to meet again on Thursday, the 11<sup>th</sup> June, 2026, at 11:00 a.m.

*(The House was adjourned to meet again on Thursday, the 11<sup>th</sup> June, 2026, at 11:00 a.m.)*